

مَدَنیُّ هُوَ صَعَابٌ؟

الذہب العزت، حضور سید عالم ﷺ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین،
مذہب اربعہ کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں عقیدہ کی اصلاح
کے لیے لکھی گئی عمدہ کتاب

مرتب

مولانا قاری محمد لقمان

دارالاسلام

الذرت العزت، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و تابعین اور تبع تابعین،
مذہبِ اربعہ کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں عقیدہ کی اصلاح
کے لیے لکھی گئی عمدہ کتاب

مَنْ هُوَ مُعَاوِيَةَ؟

مؤلف

قاری محمد لقمان

دارالاسلام

C-8 پہلی منزل مچی الدین بلڈنگ، وائٹاڈر بارمارکیٹ، گنج بخش روڈ، لاہور

darulislum21@yahoo.com +92-42-37115165

razaulhassanqadri@gmail.com 0321-9425765

www.facebook.com/Razaulhassan Qadri

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

فیضان نور علم

امام اعظم علی الاطلاق مؤسس فقہ حنفی ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ عنہ
امام امتکلمین مسد و ضلال المبتطلین مصحح عقائد مسلمین ابو منصور محمد ماتریدی رضی اللہ عنہ
غوث اعظم شیخ طریقت حضرت سید محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ
امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ
برکت المصطفیٰ فی الہند شیخ محقق حضرت شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی رضی اللہ عنہ
شیخ الاسلام و المسلمین اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ

میر مجلس

ناشر ملت اسلامیہ، محدث عصر، محقق عبقری، سماۃ الشیخ

علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ

دائر العلوم نعیمیہ، کراچی

اعیان مشاورت

علامہ مفتی جمیل احمد نعیمی، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، پیر سائیں غلام رسول قاسمی
علامہ محمد اعظم سعیدی، مولانا غلام نصیر الدین چشتی، مولانا محمد سہیل احمد سیالوی

مؤسس و مدیر

صاحب الارشاد

فضیلۃ الشیخ حضرت علامہ مفتی غلام حسن قادری
محمد رضا الحسن قادری

جملہ حقوق محفوظ ہیں

سلسلہ مطبوعات: ۱۲، طبع: شوال ۱۴۳۲ھ / ستمبر ۲۰۱۳ء، قیمت: روپے NET

فہرست

| صفحہ | عنوان | صفحہ | عنوان |
|------|------------------------------------|------|--------------------------|
| 21 | ملت اسلامیہ سے علیحدگی | 6 | انتساب |
| 22 | واجب و ضروری عمل | 7 | مقدمہ |
| 22 | اہل سنت کے عقائد | 10 | صحابی خاندان |
| 23 | راشد کنندی کی موت | 10 | نہ ٹوٹنے والے رشتے |
| 24 | صدائے ہاتف | 12 | امام معافی کی ناراضی |
| 25 | دوسری بات | 13 | قابلِ حفظ امور |
| 26 | حکمِ استغفار | 13 | لعنت کے مستحق |
| 26 | بدعتی و خبیثہ رافضی | 14 | ملعون قوم |
| 28 | زبانیں بند رکھو! | 15 | مقتضائے احادیث |
| 28 | تمام بلادِ اسلامیہ کے علما کا مذہب | 15 | صرف ذکرِ خیر |
| 29 | قبر میں ایذا دینے والا | 16 | ہزار سے زائد علما کا عمل |
| 30 | پاک و قابلِ تعریف | 16 | بزرگوں کی تاکید |
| 31 | سپرِ وحذا کر دو! | 17 | وہ اسلام پر! مگر کیسے؟ |
| 32 | عمدہ نصیحت | 18 | زندیق و بددین |
| 35 | غرض کا مطلب | 18 | وہ ایمان ہی نہیں رکھتا |
| 36 | کثیر محققین کی رائے | 19 | دین، ایمان، احسان |
| 38 | دونوں جنتی | 20 | نفاق سے آزاد |
| 40 | بعض کتب | 20 | لمحہ |
| 46 | کتاب کی ترتیب | 20 | خارج از دین |

| | | | |
|----|--|----|---------------------------------|
| 70 | امت کا ہادی | 48 | اظہار امتنان |
| 71 | باب چہارمارشادات تابعین | 49 | اعتذار |
| 71 | صاحبِ حلم و وقار | 50 | باب اولآیت قرآنی |
| 71 | بے مثل حکم ران | 50 | مہربان کی رحمت |
| 71 | امام زہری کو جواب | 51 | خط پڑھنے والے کون تھے؟ |
| 72 | اکثر لوگ..... | 53 | قطعی جنتی |
| 73 | جہنمی کون | 54 | باب دوماحادیث نبوی |
| 73 | یہ مہدی ہیں | 54 | دعاے ہدایت |
| 74 | تمہارا کیا حال ہوتا | 54 | اس کے ناقلین |
| 75 | باب پنجماقوال تبع تابعین | 58 | زواۃ |
| 75 | وہ خاک! | 59 | کیا یہ صحابی نہیں؟ |
| 75 | ہزار درجہ افضل | 61 | غور طلب بات |
| 76 | عظیم شرف | 64 | بلاشبہ مقبول دعا |
| 77 | ان کا مقتدی، اللہ اللہ!! | 65 | دوسری التجاہہ درگاہِ خدا |
| 77 | صرف ان کی خاطر! | 65 | بہ وقت سحر کیا مانگا؟ |
| 78 | چھ سو سے بھی بہتر | 65 | وقت سحر، سبحان اللہ |
| 79 | پردہ اصحاب | 66 | شہروں پر قبضہ |
| 80 | باب ششم ... علمائے احناف کا نظریہ | 67 | باب سومآثار صحابہ |
| 80 | بال اور خون | 67 | بہترین قاضی |
| 81 | عادل، فاضل | 67 | صاحبِ نبی |
| 81 | صحبت نبوی | 68 | سمجھ دار |
| 83 | جہنمی کتا | 68 | زیادہ علم والے |
| 84 | خبردار! | 69 | بہترین حاکم |
| 84 | نجیب و مجتہد | 69 | بے مثال سردار |
| 85 | راہ نما، راہ یاب | 70 | بردبار |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|--|
| 107 | شاگردِ رشید سید والا | 86 | انتہائی اہم باتیں |
| 107 | وحی الہی کی کتابت | 88 | تفسیقہ کی اقتدا کا حکم |
| 108 | جلیل المرتبت علما کہتے ہیں | 89 | محمدی بادشاہ |
| 114 | باب نهم شواہغ کے فرامین | 90 | تورات شریف کی عبارت |
| 114 | اسلام کا دروازہ | 90 | واجب الاعداد نماز |
| 115 | امام ابو عمر کا معمول | 92 | باب ہفتم مالکیہ کا نقطہ نظر |
| 115 | اللہ ان سے راضی ہو | 92 | قتل یا سزا |
| 116 | بہترین صحابی | 93 | قتل کا حکم، کیوں؟ |
| 116 | یہ دروازہ بالکل بند کر دو! | 94 | باب ہشتم حنا بلہ کی آرا |
| 117 | ان سے محبت کرو | 94 | صرف اچھی بات |
| 118 | ترتیب مراتب صحابہ | 95 | عافیت کا سوال |
| 121 | مجموعی اجر کے حق دار | 95 | ناپاک باطن والا |
| 123 | خلاصہ | 96 | کھانے سے پرہیز |
| 126 | منظوم خلاصہ | 96 | سب سے بہتر لوگ |
| 127 | ہدایت یافتہ کے لیے بس! | 97 | قطع تعلق |
| 128 | ملکی قوانین | 97 | نشانِ وجود |
| 128 | دفعہ A-298 | 98 | حال المؤمنین نہ کہیں؟ |
| 129 | شرح | 100 | دو باتوں کی وضاحت |
| 130 | کویت میں پاس ہونے والا قانون | 100 | پہلی بات |
| 133 | تقاریظ | 101 | تفسیر ابن عباس |
| 148 | ماخذ و مراجع | 101 | معتد بہ علما کی رائے |
| | | 106 | دوسری بات |



انتساب

کنز العوارف، معدن المعارف

اوحده العلماء الحقانیة، افراد العظماء الربانیة

ناصر السنة، کاسر الفتنة، امام المسلمین، حافظ، حجة، ثقة ثبت

امام احمد بن محمد بن حنبل

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه و فی اعلىٰ غرف الجنان بواہ

کے نام

جنھوں نے ”من هو معاویہ؟“ کے جواب میں

ہماری راہ نمائی فرمائی۔

جزاه اللہ عن الاسلام و المسلمین خیر جزاء۔ آمین!

مَقْدِمَةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ .

[1] ”بے حد و انتہا حمد و ستائش کے لائق وہ ذات ہے جس کا شریک ہے نہ ہی کہیم۔ ساری کائنات کو صرف اُس نے ہی وجود عطا فرمایا، ہر ایک کا داتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب اُسی غنی کے محتاج، وہی سب کا حاجت روا۔ کون ہے جو اُس پروردگار کی تعریف کما حقہ کرے۔ میں گواہی دیتا ہوں: میرا وہی معبود ہے، میرا وہی رب ہے، میں ہر قسم کے شرک سے بیزار ہوں۔“

[1] بازوق قارئین! کتاب ہذا کا نام ”من هو معاویة؟“ ہے، جس کا مطلب ہے: ”کون معاویہ؟“ ابجد کے اعتبار سے ”کون معاویہ؟“ کے دو سو آٹھ (208) عدد بنتے ہیں، اسی نسبت سے میں نے دو سو آٹھ الفاظ پر مشتمل یہ خطبہ ترتیب دیا ہے؛ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ منقوٹہ (نقطے والا) اور دوسرا غیر منقوٹہ (بغیر نقطے کے) ہے۔

علامہ ابو محمد قاسم بن علی حریری شافعی (متوفی 561ھ) نے عربی زبان میں ”مقامات حریری“ نامی ایک کتاب لکھی ہے جس کا چھپالیس واں (46) مقام، ”المقامة الحلیة“، اس طرح ترتیب دیا ہے کہ پہلے دس اشعار غیر منقوٹہ، پھر چھ اشعار منقوٹہ، اور بعد ازاں پانچ اشعار ایسے لائے ہیں جن کا ایک لفظ منقوٹہ اور ایک غیر منقوٹہ ہے۔

عربی ادب کے اس شاہ کار کو دیکھنے کے بعد میرا یہ ذہن بنا کہ اردو نثر میں ایک ایسی کتاب مرتب کروں جس میں یہ تینوں صنعتیں ہوں۔ اپنی کم مائیگی کے باوجود محض اللہ رب العزت کی مدد کے بھروسے میں نے یہ کام شروع کر دیا، اور اس کتاب کو تین ابواب میں تقسیم کیا: پہلا باب: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، دوسرا انبیاء عظام علیہم السلام اور تیسرا اہل بیت پاک و صحابہ کرام علیہم السلام کے متعلق۔ پہلا باب تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے، دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ یہ کتاب مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے! یہ خطبہ جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کچھ ترمیم کے ساتھ اسی کتاب سے ہی لیا گیا ہے۔ (لقمان عفی عنہ)

بے حد و انتہا سلام و صلاۃ اُس ذاتِ گرامی پر کہ جن کی محبت اصلِ ایمان و روحِ ایمان ہے۔ ان کی محبت کے بغیر کمالِ ایمان کے تمام دعوے باطل و عاقل ہیں۔ کسے مجال کہ ان کی مدحت کرے جب کہ خود اللہ جہد و عطا ان کی تعریف و مدح کرتا ہے، بلکہ ”محمد“ نام سے انھیں موسوم فرماتا ہے، صلوٰۃ اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ۔
 کروڑوں رحمتیں ہوں تمام اہل بیت کرام و صحابہ کرام پر کہ جو ہماری [1] اوستاروں کی مانند واسطہ ہیں، اور بالخصوص کل مسلمانوں کے آقا و مولیٰ: صدیق، عمر، عثمان، علی، حسن اور معاویہ اور ان کے مہین و موالی پر۔

لاکھوں، ہزاروں سلام: کاشفِ اسرار حضرت امام اعظم، مالک، شافعی، احمد حنبلی، امام یعقوب، محمد شیبانی، امام زفر، اعلیٰ حضرت احمد رضا اور تمام علمائے حق اہل سنت و ائمہ پر ہوں۔“

اما بعد...

”معاویہ“ نام، عرب و عجم میں بہت ہی معروف ہے، اس نام کے کثیر صحابہ، ان کے آبا، تابعین، تبع تابعین، علماء و محدثین اور لا تعداد لوگ گزرے ہیں۔ صرف ”معاویہ“ نامی صحابہ کی تعداد کے بارے میں حافظ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی (متوفی 855ھ) نے لکھا ہے کہ

”اس نام کے 20 سے زائد صحابہ نبی ﷺ ہیں۔“

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب العلم، باب من یرد اللہ بہ.....، ج 2، ص 74)
 علامہ ابوالفیض محمد بن محمد (مرتضیٰ زبیدی) حسینی (متوفی 1205ھ) نے لکھا ہے:

”سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ رسول کریم ﷺ کے 17 صحابہ رضی اللہ عنہم

ایسے تھے جن کا نام معاویہ تھا۔“

و من المحدثین کثیرون۔

”اور اس نام کے محدثین تو بہت زیادہ ہیں۔“

(تاج العروس من جواهر القاموس، مادہ ع و ی، ج 39، ص 131)

امام عزالدین ابوالحسن علی بن محمد جزری (متوفی 630ھ) نے ”اسد الغابۃ فی

معرفة الصحابة“ میں معاویہ نامی 19 بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے۔

(انظر: اسد الغابۃ فی معرفة الصحابة، ج 4، ص 151 تا 159، رقم 4978 الی 4996)

امام حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی (متوفی 748ھ) نے ”تجرید اسماء

الصحابة“ میں معاویہ نام کے 22 بزرگوں کا ذکر خیر کیا ہے۔

(انظر: تجرید اسماء الصحابة، ج 2، ص 82 تا 84 رقم 920 الی 941)

اسی طرح حافظ شہاب الدین احمد بن علی (ابن حجر) عسقلانی شافعی (متوفی

852ھ) نے معاویہ نام کے 29 صحابہ، تابعین اور محدثین و علما کا تذکرہ کیا ہے۔

(انظر: تہذیب التہذیب فی رجال الحدیث، حرف المیم،

ج 6، ص 324 الی 342، رقم 7971 الی 7999)

نیز معاویہ نام کے ایک بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک میں بھی تھے جو

کہ ابوطالب کے پڑپوتے، خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ

کے بڑے بھائی سیدنا جعفر طیار کے لخت جگر سیدنا عبداللہ کے نور نظر تھے۔ رضی اللہ

(انظر: تہذیب التہذیب، ج 6، ص 336، رقم 7987۔ تنقیح المقال فی علم الرجال

لمامقانی الرافضی، باب معویة، ج 3، ص 225، وغیرہما کتب الفریقین)

علاوہ ازیں امامقانی رافضی نے اپنی کتاب ”تنقیح المقال فی علم

الرجال“ میں معاویہ نامی 25 افراد کا تذکرہ کیا ہے جن میں سیدنا علی فداہ رومی و

جسدی، سیدنا جعفر صادق اور دیگر ائمہ کے معتد بہ رفقا بھی شامل ہیں۔

(انظر: تنقیح المقال، باب معویة، ج 3، ص 222 الی 226)

اسی طرح تفرشی رافضی نے اپنی کتاب ”نقد الرجال“ میں معاویہ نامی 22

افراد کا تذکرہ کیا ہے جن میں دو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، دو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ

الکرم کے رفیق، سات سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ساتھی، اور دو سیدنا رضا رضی اللہ عنہ کے مصاحب بھی ہیں۔ (انظر: نقد الرجال، ج 4، ص 385 تا 392، رقم 5321 الی 5342) الغرض اس نام کے بے شمار لوگ ہیں، لیکن جب حدیث پاک میں یاد دیگر مقامات پر مطلقاً ”معاویہ“ آتا ہے تو اس سے مراد کوئی اور نہیں، سیدنا ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہوتی ہے۔

(انظر: مرآة المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، متفرق فضائل کی احادیث، ج 8، ص 551 - مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، باب جامع المناقب، ج 9، ص 4022، رقم 6244) اور کتاب ہذا میں ہمارا رُوئے سخن بھی آپ رضی اللہ عنہ ہی کی ذات گرامی کی طرف ہے۔

صحابی خاندان

آپ کون ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ اللہ عز و جد کے آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ فداءہ ابی و امی و روحی و جسدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ نہ صرف خود صحابی، بلکہ آپ کے والد سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ (متوفی 32ھ)، والدہ سیدہ ہند (متوفی 14ھ)، بھائی: سیدنا ابو خالد (متوفی 18 یا 19ھ) اور سیدنا عتبہ (متوفی 43 یا 44ھ)، بہنیں: سیدہ ام حبیبہ رملہ (متوفی 40ھ)، سیدہ ام الحکم اور سیدہ عذہ [1] رضی اللہ عنہم بھی شرف صحابیت سے مشرف ہیں۔

(انظر: اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابة، ج 4، ص 477، رقم 5969، ج 5، ص 416، رقم 7351، ج 4، ص 341، رقم 5559، ج 3، ص 198، رقم 3546، ج 5، ص 434، رقم 7410، ص 437، رقم 7418، ص 346، رقم 7110، وغیرہ کتب تراجم)

نہ ٹوٹنے والے رشتے

اس کے علاوہ آپ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ وہ اس طرح کہ والد اور والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب پانچ ویں پشت میں جا کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے [1] آپ کا اسم گرامی بعض نے حمزہ اور بعض نے درہ بھی بیان کیا ہے، لیکن زیادہ معروف عذہ ہی ہے۔ (نفساً)

مل جاتا ہے۔ (امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، پہلا باب، ص 40 وغیرہ)
 نیز آپ رضی اللہ عنہ کی ہم شیرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے
 شرف سے بھی مشرف ہیں۔

(انظر: کتاب الاربعین فی مناقب امہات المؤمنین رحمۃ اللہ علیہن،
 التاسعة ام حبیبہ، ص 45 و عامہ کتب حدیث و تراجم وغیرہ)
 اور یہی وہ دور شتے ہیں (یعنی نسبی و سسرالی) کہ شرف صحابیت کے بعد جو خود
 بہت بڑے شرف کے حامل ہیں؛ انھی کی بزرگی کا خود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح
 اظہار فرمایا کہ

کل نسب و صہر ینقطع یوم القیامۃ الا نسبی و صہری۔
 ”بہ روز قیامت تمام نسبی اور سسرالی رشتے منقطع ہو جائیں گے ماسوا
 میرے نسب والوں اور سسرال والوں کے۔“

(حدیث الزہری، ص 388، رقم 359- الفوائد، ج 2، ص 233، رقم 1603، وغیرہ)
 اس معنی کی حدیث پاک کے بارے میں ثقہ محدث حافظ ابوالحسن عبدالملک بن عبد
 الحمید میمون (متوفی 274ھ) بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے عرض کی:
 کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں:

کل صہر و نسب ینقطع الا صہری و نسبی؟
 ”(بہ روز قیامت) تمام سسرالی و نسبی رشتے منقطع ہو جائیں گے سواے
 میرے سسرال اور نسب والوں کے۔“

آپ نے فرمایا:

بلی۔

”کیوں نہیں۔“

قلت: و ہذہ لمعاویۃ؟

”میں نے عرض کی: سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں داخل ہیں؟“

قال: نعم له صهر و نسب۔

”آپ نے فرمایا: ہاں سیدنا معاویہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی و سرالی رشتہ

دار ہیں۔“

(السنة، ذکر ابی عبد الرحمن معاویة.....، ج 2، ص 432، رقم 654- شرح اصول

اعتقاد اهل السنة و الجماعة، سیاق ماروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضائل ابی عبد

الرحمن معاویة.....، ج 8، ص 1532، رقم 2786)

امام معافی کی ناراضی

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے شرف صحابیت و سرالی رشتہ داری کے بارے میں مشہور

ولی اللہ حضرت بشر بن حارث حافی رضی اللہ عنہ (متوفی 227ھ) کے اُستاد، حافظ الحدیث،

یا قوتہ العلماء، ولی کامل و باکرامت، امام ابو مسعود معافی بن عمران علیہ الرحمۃ و

الرضوان (متوفی 185ھ) کا ایک فرمان بھی ملاحظہ فرمائیں!

آپ رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا:

یا ابا مسعود! این عمر بن عبد العزیز من معاویة بن ابی سفیان؟

”اے ابو مسعود! حضرت عمر بن عبد العزیز سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں

کیسے ہیں؟“

فغضب من ذلك غضباً شديداً و قال: لا يقاس باصحاب

رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احد۔

”اس کی یہ بات سن کر امام صاحب کو انتہائی غصہ آیا اور فرمانے لگے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر غیر صحابی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔“

معاویة صاحبه و صهره و كاتبه و امينه على وحي الله عز و

جل و قد قال رسول الله ﷺ: دعوا لي اصحابي و اصهارى
 فمن سبهم فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين۔
 ”سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی، سسرالی رشتہ دار، آپ ﷺ
 کے کاتب اور وحی الہی پر آپ کے امین ہیں اور بے شک حضور سید عالم
 ﷺ کا فرمان ہے: میرے صحابہ اور سسرال والوں سے درگزر کرو! جس
 نے ان میں سے کسی کی بھی بدگوئی کی اُس پر اللہ، اُس کے فرشتوں اور
 تمام لوگوں کی لعنت۔“

(تاریخ بغداد، معاویہ بن ابی سفیان، ج 1، ص 577، رقم 134)

اور سیدنا ابو عبد الرحمن معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پاک صرف انھی بزرگیوں کی حامل
 نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سے اعزاز حاصل ہیں جن کے احصا کے لیے
 دفتر درکار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم ﷺ کی خاطر آپ سے محبت کرنے کی توفیق
 عطا فرمائے! آمین!

قابل حفظ امور

یا در کھیں! صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت نبی آخر الزماں سیدنا محمد رسول
 اللہ فداہ رومی و جسدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے تمام
 اصحاب و انصار اور اہل بیت پاک علی ہدھم و علیہم الصلاۃ و السلام
 اللہ عزوجل کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم پر ان سب کی تعظیم و توقیر فرض ہے؛ ان میں
 سے کسی ایک کی بھی توہین و تنقیض باعث خسرانِ عظیم ہے۔

لعنت کے مستحق

سیدنا عمویم بن ساعدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا:
 ان اللہ تبارک و تعالیٰ اختارنی و اختار لی اصحابا فجعل لی

منهم وزراء و انصارا و اصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله و الملكة و الناس اجمعين۔ لا يقبل منه يوم القيامة صرف و لا عدل۔

”بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے (اپنی ساری مخلوق سے) مجھے برگزیدہ کیا اور میرے لیے صحابہ منتخب کیے، انھی میں سے میرے وزیر، مددگار اور سرال والے ہیں، پس جو ان (میں سے کسی) کی بدگوئی کرے گا اس پر اللہ کی، اُس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی اور اس کا کوئی نفل و فرض قبول نہیں کیا جائے گا۔“ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

(المستدرک علی الصحیحین، ذکر عویم بن ساعده رضی اللہ عنہ، ج 3، ص 732، رقم 6656- الآحاد و المثانی لابن ابی عاصم، عویم بن ساعده.....، ج 4، ص 4، رقم 1946- السنة لابن ابی عاصم، باب ذکر الرافضة خذلهم اللہ، ج 2، ص 483، رقم 1000- السنة لابی بکر الخلال، التغلیظ علی من کتب الحدیث.....، ج 3، ص 515، رقم 834 و غیرها)

امام حاکم نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور حافظ ذہبی نے ان کی موافقت فرمائی ہے۔

ملعون قوم

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
ان اللہ اختارنی و اختار اصحابی فجعلہم اصہاری و جعلہم انصاری و انه سيجيء في آخر الزمان قوم ينتقصونهم الا فلا تناكحوهم الا فلا تنكحوا اليهم الا فلا تصلوا معهم الا فلا تصلوا عليهم عليهم حلت اللعنة۔

”اللہ عز و جل نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا، انھی میں سے میرے سرال والے اور مددگار ہیں۔ آخری زمانہ میں

کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو ان کی تنقیص کریں گے (اے میرے اُمتیو!)
 خبردار! اُن سے رشتہ لینا نہ اُنھیں رشتہ دینا، اُن کے ساتھ نماز پڑھنا نہ
 اُن کی نماز (جنازہ) پڑھنا کیوں کہ وہ لعنتی ہیں۔“

(الكفاية فى علم الرواية للخطيب، باب ما جاء فى تعديل الله ورسوله للصحابة
، ص 48-المخلصيات، الجزء الحادى عشر من المخلصيات، ج 3، ص 368،
 رقم (228) (2732)

مقتضائے احادیث

امام اوحّد، حافظ خطیب بغدادی (متوفی 463ھ) نے اپنی کتاب ”الكفاية“ میں
 عدالت صحابہ رضی اللہ عنہم پر ایک نہایت ہی عمدہ فصل قائم کی ہے جس میں آیات قرآنیہ و
 احادیث نبویہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت بیان فرمائی ہے۔ یہ فصل اگرچہ بہ اعتبار
 مضمون مختصر ہے مگر جامع ہے۔ اسی فصل میں آپ نے مذکورہ حدیث پاک نقل کرنے
 کے بعد لکھا ہے:

و الاخبار فى هذا المعنى تتسع، و كلها مطابقة لما ورد فى
 نص القرآن، و جميع ذلك يقتضى طهارة الصحابة، و
 القطع على تعديلهم و نراهم۔

”اس معنی میں بے شمار حدیثیں ہیں اور تمام کی تمام نص قرآنی میں وارد معنی
 کے مطابق ہیں۔ یہ تمام آیات و احادیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طہارت و
 پاکیزگی کا تقاضا کرتی ہیں اور ان کی عدالت و پاکیزگی پر قطعی دلیل ہیں۔“

(الكفاية فى علم الرواية، باب ما جاء فى تعديل الله ورسوله للصحابة.....، ص 48)

صرف ذکر خیر

اسی معنی کی آیات و احادیث کے پیش نظر ہمارے اسلاف کرام رضی اللہ عنہم تمام صحابہ

کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ ہی کرتے تھے جیسا کہ سید الائمہ، سراج الاممہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوئی تابعی رضی اللہ عنہ (متوفی 150ھ) فرماتے ہیں:

لا نذكر احدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا بخیر۔

”ہم تمام صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔“

(الفقہ الاکبر، لا یکفر مسلم بذنب ما لم يستحلہ، ص 43)

ہزار سے زائد علما کا عمل

امیر المؤمنین فی الحدیث، حافظ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری (متوفی 256ھ) فرماتے ہیں: میں نے ایک ہزار سے زیادہ اہل علم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے جن میں حجاز مقدس، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، واسط، بغداد، شام، مصر اور الجزیرہ کے بزرگ بھی ہیں، اور ان سے صرف ایک بار ہی نہیں، چھالیس سال سے زائد عرصہ میں کئی مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا مگر

ما رايت فيهم احدا يتناول اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

”میں نے ان میں سے کوئی ایک بزرگ بھی ایسے نہیں دیکھے جو صحابہ کرام

کی برائی کرتے ہوں۔“

(شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة، اعتقاد ابی عبد اللہ

محمد بن عبد اللہ.....، ج 1، ص 194، 196، رقم 320 ملقطاً)

بزرگوں کی تاکید

اسی طرح ہمارے بزرگوں نے ہمیں بھی تاکید فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرو کبھی ان کی کسر شان کوئی بات منہ سے نکالو نہ ہی ان میں سے کسی کی توہین و تنقیص کرو کہ یہ ایمان والوں کا نہیں زندیقوں، ملحدوں اور کافروں کا کام ہے۔ چناں چہ:

امام دارالہجرہ، حافظ ابو عبد اللہ مالک بن انس مدنی اصبحی (متوفی 179ھ) صحابہ کرام کی شان میں وارد سورۃ الفتح کی آخری آیت کے جملے: لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (تاکہ ان (صحابہ) سے کافروں کے دل جلیں) سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کرتے: من غاظہ اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) فهو کافر۔

”جو صحابہ کرام (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جلے وہ کافر ہے۔“

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الفصل السادس توفير

اصحابه و برهم و معرفة حقهم، ج 2، ص 120 وغیره)

امام المسلمین حافظ ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل بھی یہی فرمایا کرتے۔

(انظر: السنة، ج 2، ص 437، رقم 666)

انھی الفاظ (لِيَغِيظَ..... الخ) کے تحت مفسر شہیر، محدث کبیر، مفتی احمد یار بن محمد یار نعیمی حنفی (متوفی 1391ھ) لکھتے ہیں:

”معلوم ہوا کہ صحابہ سے جلنے والے سب کافر ہیں۔“

(تفسیر نور العرفان علی حاشیہ کتر الایمان، جز 26، سورۃ الفتح، تحت آیت 29، ص 822)

وہ اسلام پر! مگر کیسے؟

امام المسلمین حافظ ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل (متوفی 241ھ) کے بیٹے

حضرت عبد اللہ بیان کرتے ہیں:

سالت ابی عن رجل شتم رجلا من اصحاب النبی (صلی اللہ علیہ وسلم)

فقال: ما اراه علی الاسلام۔

”میں نے اپنے والد گرامی سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جو نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو (معاذ اللہ) گالی دیتا ہے تو آپ نے فرمایا: میں ایسے

آدمی کو (جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو گالی دے) اسلام پر نہیں سمجھتا۔“

(السنة لابن بکر الخلال، ذکر الروافض، ج 3، ص 493، رقم 782)

زندیق و بدوین

سید الحقاظ امام ابو زرعه عبید اللہ بن عبد الکریم رازی (متوفی 264ھ) فرماتے تھے:
 اذا رایت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ
 علیہ وسلم فاعلم انه زندیق۔ و ذلك ان الرسول علیہ وسلم عندنا
 حق، و القرآن حق، و انما ادى الینا هذا القرآن و السنن
 اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم، و انما یریدون ان یجرحوا
 شہودنا لیبطلوا الكتاب و السنة، و الجرح بهم اولی و ہم
 زنادقة۔

”جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے کسی صحابی کی تنقیص کر
 رہا ہے تو جان لو کہ وہ ’زندیق‘ ہے۔ کیوں کہ (ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے
 کہ) رسول اللہ ﷺ حق ہیں اور قرآن پاک بھی حق اور (یہ حقیقت ہے
 کہ) ہم تک قرآن و سنن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہنچائے اور یہ (ان
 بزرگوں کی تنقیص کرنے والے) چاہتے ہیں کہ ہمارے شاہدوں پر جرح
 کر کے کتاب و سنت کو باطل قرار دیں، حالانکہ یہ (دین کے دشمن)
 خود جرح کیے جانے کے زیادہ مستحق ہیں اور یہی زندیق ہیں۔“

(الكفاية في علم الرواية، باب ما جاء في تعديل الله و رسوله للصحابة.....، ص 46
 - تاريخ دمشق، عبید اللہ بن عبد الکریم.....، ج 38، ص 32، رقم 33- تہذیب
 الکمال فی اسماء الرجال، عبید اللہ بن عبد الکریم.....، ج 19، ص 96- الاصابة فی
 تمييز الصحابة، الفصل الثالث فی بیان حال الصحابة.....، ج 1، ص 162، 163)

وہ ایمان ہی نہیں رکھتا

شیخ العارفین، امام ابو محمد سہل بن عبد اللہ تبری (متوفی 283ھ) فرمایا کرتے:

لم يؤمن بالرسول من لم يوقر اصحابه و لم يعز او امره۔
 ”جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم نہیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی عزت نہیں کرتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔“

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الفصل السادس توقيير اصحابه و برهم، ج 2، ص 125- بهجة المحافل و بغية الامثال في تلخيص المعجزات و السير و الشمائل، الفصل الثاني في فضل اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ج 2، ص 405- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، طبقات الصحابة، الطبقة الثانية عشر صبيان ادركوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ج 2، ص 706)

دین، ایمان، احسان

امام حافظ ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی حنفی (متوفی 321ھ) فرماتے ہیں:
 و نحب اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و لا نفرط فی حب احد منهم و لا نتبرا من احد منهم و نبغض من یبغضهم و بغير الخیر یدکرهم، و لا نذکرهم الا بخیر۔ و حبهم دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان۔
 ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی ایک صحابی کی محبت میں بھی حد سے نہیں بڑھتے اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک سے تبرا کرتے ہیں۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے اور ان کا ذکر خیر سے نہیں کرتا ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور ہم صحابہ کا صرف ذکر خیر ہی کرتے ہیں کیوں کہ ان کی محبت دین و ایمان اور احسان [1] ہے اور ان سے بغض

[1] شیخ الحدیث والتفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

احسان کا اطلاق دو معنوں پر کیا جاتا ہے: (1) کسی شخص پر انجام کرنا۔ (2) نیک کام کرنا۔ احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: عدل انصاف ہے اور احسان انصاف سے زائد چیز ہے۔ (تبیان القرآن، پارہ 14، سورۃ النحل، تحت آیت 90، ج 6، ص 554، 555 ملتقطاً)

کفر و نفاق اور طغیان ہے۔“

نفاق سے آزاد

امام طحاوی مزید فرماتے ہیں:

و من احسن القول في اصحاب رسول الله ﷺ و ازواجه الطاهرات من كل دنس و ذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق۔

”جو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ اور ہر عیب سے پاک آپ کی ازواجِ مطہرات اور ہر قسم کی آلودگی سے پاک آپ کی اولاد کے بارے میں اچھی گفتگو کرتا ہے اس کے نفاق سے بری ہونے میں کوئی شک نہیں۔“

(العقيدة الطحاوية، ص 81، 82، رقم 93، 96)

ملحد

امام الفقہاء، شمس الائمہ، فقیہ ابو بکر محمد بن احمد سرخسی حنفی نور اللہ مرقدہ (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:

فمن طعن فيهم فهو ملحد منا بذ للاسلام دواؤه السيف ان لم يتب۔

”صحابہ کرام پر طعن کرنے والا اسلام کو پس پشت ڈال دینے والا ملحد ہے؛ اگر توبہ نہ کرے تو اس (بیمار نابکار) کی دوا تلوار ہے۔“

(أصول السرخسی، فصل في حدوث الخلاف بعد

الاجماع باعتبار معنى حادث، ج 2، ص 134)

خارج از دین

امام حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی (متوفی 748ھ) صحابہ کرام کے

بارے میں فرماتے ہیں:

اگر یہ نفوسِ قدسیہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس دین کی اصل پہنچتی اور نہ ہی فرع، نہ ہم
فرائض و سنن جانتے اور نہ ہی احادیث و اخبار میں سے کسی کا علم حاصل کر سکتے۔

فمن طعن فيهم او سبهم فقد خرج من الدين و مرق من ملة
المسلمين۔

”پس ان پاکیزہ ذوات کو جس نے طعن کیا یا انھیں گالی دی تو وہ دین
سے نکل گیا اور ملتِ اسلامیہ سے خارج ہو گیا۔“

(الكبائر، الكبيرة السبعون، سب احد من الصحابة رضوان الله عليهم.....، ص 250)

ملتِ اسلامیہ سے علیحدگی

امام شہاب الدین احمد بن محمد (ابن حجر) مکی شافعی (متوفی 974ھ) فرماتے ہیں:

فمن طعن فيهم فقد كاد ان يمرق من الملة لان الطعن فيهم
يؤدى الى انطماس نورها۔

”جو شخص صحابہ کرام پر طعن کرتا ہے قریب ہے کہ وہ ملتِ اسلامیہ سے الگ
ہو جائے کیوں کہ ان ذواتِ قدسیاں پر طعن نورِ اسلام کو بجھا دیتا ہے۔“

(الزواجر عن اقتراف الكبائر، الكبيرة الرابعة و الخامسة الستون بعد الرابع

مائة، بغض الانصار و شتم واحد من الصحابة.....، ج 2، ص 320)

آپ یہ بھی فرماتے ہیں:

فبغض الصحابة كلهم و بغض بعضهم من حيث الصحبة لا
شك انه كفر۔

”تمام صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے بھی اس لیے بغض رکھنا کہ وہ
صحابی ہے، بلاشبہ ’کفر‘ ہے۔“

(الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع و الزندقة، خاتمة، ص 365)

واجب و ضروری عمل

محدث و فقیہ، شیخ ابوالموہب عبدالوہاب بن احمد شعرانی شافعی (متوفی 973ھ)

فرماتے ہیں:

فمن طعن فی الصحابة فقد طعن فی نفس دینه فیجب سد
الباب جملة واحدة لا سيما الخوض فی امر معاویة و عمرو
بن العاص۔

”جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن کرتا ہے بے شک وہ اپنے دین پر طعن کرتا
ہے، لہذا واجب و ضروری ہے کہ یہ دروازہ بالکل بند کر دیا جائے بالخصوص
سیدنا معاویہ اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں۔“

(الیواقیت و الجواہر فی بیان عقائد الاکابر، المبحث الرابع و الاربعون

فی بیان وجوب الکف عن شجر بین الصحابة.....، ج 2، ص 323)

اہل سنت کے عقائد

فقہ اعظم، صدر الشریعہ، مفتی محمد امجد علی بن حکیم جمال الدین اعظمی حنفی (متوفی

1367ھ) اہل سنت کے عقائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل، ان کا جب ذکر
کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ کسی صحابی کے ساتھ سونے
عقیدت بد مذہبی و گم راہی و استحقاق جہنم ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ بغض ہے؛ ایسا شخص رافضی ہے اگرچہ چاروں خلفا کو مانے اور اپنے
آپ کو سستی کہے۔ مثلاً: حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت
ابوسفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہند، اسی طرح حضرت سیدنا عمرو بن
عاص و حضرت مغیرہ بن شعبہ و حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم، حتیٰ کہ حضرت

وحشی رضی اللہ عنہ جنھوں نے قبل اسلام حضرت سیدنا سید الشہد احمدہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور بعد اسلام انہیں خبیث الناس خبیث مسلمہ کذاب ملعون کو واصل جہنم کیا؛ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس وشر الناس کو قتل کیا۔ ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی، تبراہے اور اس کا قاتل رافضی؛ اگرچہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی توہین کے مثل نہیں ہو سکتی کہ ان کی توہین، بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے۔“

(بہار شریعت، امامت کا بیان، ج 17، ص 252، 253)

راشد کنڈی کی موت

امام حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر (ابن کثیر) قرشی شافعی (متوفی 774ھ)

لکھتے ہیں:

و قال بعضهم: رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عنده ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویة، اذ جاء رجل فقال عمر: یا رسول اللہ! هذا یتنقصنا۔ فکانہ انتھرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال: یا رسول اللہ انی لا اتنقص هؤلاء و لکن هذا، یعنی معاویة۔ فقال: ویلک! ا و لیس هو من اصحابی؟ قالها ثلاثاً، ثم اخذ رسول اللہ حربہ فناولها معاویة فقال: جابها فی لبتہ، فضربه بها و انتبھت فبکرت الی منزله فاذا ذلک الرجل قد اصابته الذبحة من اللیل و مات، و هو راشد الکندی۔

”بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اس حال میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

تھے۔ آپ ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا تو سیدنا عمر پاک رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! یہ ہماری تنقیص کرتا ہے۔ حضور ﷺ نے اسے جھڑکا تو وہ کہنے لگا: یا رسول اللہ! میں ان کی تنقیص نہیں کرتا، میں تو صرف معاویہ کی تنقیص کرتا ہوں۔ (اس بد بخت کی یہ بات سن کر) نبی پاک ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا: تیرا ناس ہو جائے کیا یہ میرے صحابی نہیں؟؟ پھر آپ ﷺ نے ایک نیزہ سیدنا معاویہ کو دے کر فرمایا: یہ اس کے سینے میں مارو! آپ رضی اللہ عنہ نے اسے نیزہ مارا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں: صبح بیدار ہو کر جب میں اس کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ راشد کنڈی نامی اُس آدمی کو رات کسی نے ذبح کر دیا اور وہ مر گیا۔“

(البداية و النهاية، ترجمة معاوية و ذكر شىء من ايامه.....، ج 8، ص 149)
حافظ ابن کثیر نے اس واقعہ کا ذکر بہ صیغہ تملیض ("بعضہم" سے) کیا ہے، راوی کا نام ذکر نہیں کیا، لیکن صاحب لسان العرب علامہ ابن منظور نے یہ خواب محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

(انظر: مختصر تاریخ دمشق، معاوية بن صخر ابن سفیان.....، ج 25، ص 76)
اور کہا ہے: یہ بزرگ ابدال میں سے ہیں۔ (ایضاً)

انھی امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب قرشی (متوفی 244ھ) کے بارے میں حافظ ذہبی کہتے ہیں: یہ ثقہ امام، محدث اور فقیہ تھے۔ امام نسائی نے بھی انھیں ثقہ کہا ہے۔ [1] (انظر: سیر اعلام النبلاء، ج 11، ص 103، 104، رقم 32)

صدائے ہاتف

اسی طرح ثقہ محدث، امام ابوالقاسم عبد اللہ بن محمد بغدادی (متوفی 406ھ)

[1] یعنی یہ خواب کسی نامعلوم شخص کا نہیں بل کہ اپنے وقت کے ابدال و امام، اور ثقہ محدث و فقیہ کا ہے۔ (لقمان)

کہتے ہیں: محمد بن حسن نے بیان کیا کہ میں نے ملک شام کے ایک پہاڑ پر ہاتف کو یہ کہتے سنا:

من ابغض الصديق فذاك زنديق۔

”جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھے وہ زندق ہے۔“

من ابغض عمر الی جہنم زمر۔

”جس نے سیدنا عمر پاک رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا وہ جہنمی گروہ میں ہوگا۔“

من ابغض عثمان فذاك خصمه الرحمن۔

”جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا اس کا مد مقابل رحمن عزوجل ہوگا۔“

من ابغض علیا فذاك خصمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

”جس نے مولا علی پاک رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا اس کے مد مقابل نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔“

من ابغض معاویة تسحبه الزبانية الی نار اللہ الحامیة۔

”اور جس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا فرشتے اسے پیشانی سے

پکڑ کر بھڑکتی آگ میں پھینکیں گے۔“ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

(فضائل امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان، مخطوطہ)

یہ روایت حافظ ابن عساکر، علامہ ابن منظور اور حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے۔

(انظر: تاریخ دمشق، ذکر معاویة بن صخر ابی سفیان.....، ج 59، ص 212- مختصر تاریخ

دمشق ج 25، ص 76- البداية و النہایة، ترجمة معاویة و ذکر شیء من ایامہ، ج 8، ص 149)

الذریب العزت ہمیں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعظیم و توقیر کی توفیق عطا فرمائے اور

ان کی ادنیٰ سی تنقیص سے بھی بچائے! آمین!!

دوسری بات

دوسری قابل حفظ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہم جو مشاجرات و

اختلافات ہوئے مثلاً: امام مظلوم سیدنا عثمان پاک رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سانحہ دل دوز کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے قصاص کی بابت جو اختلافات رونما ہوئے اور معاملہ جدال تک پہنچ گیا وغیرہ ان کی بنا پر بھی کسی صحابی پر طعن کرنا جائز نہیں؛ ان معاملات میں اکابر اہل سنت نے روافض و خوارج سے الگ راہ اختیار کی ہے اور وہ یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ان معاملات میں خاموشی اختیار کی جائے اور ان کے شرفِ صحبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب کا حسبِ مراتب احترام کیا جائے۔ چنانچہ:

حکمِ استغفار

امت محمدیہ کے ”حبر“ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

امر اللہ عزوجل بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و هو يعلم انہم سیقتلون۔

”اللہ عزوجل نے تمہیں صحابہ کرام کے لیے استغفار کا حکم دیا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ان میں مقاتلہ ہوگا۔“ (یعنی جب اس عالم الغیب والشہادہ نے سب کچھ جانتے ہوئے ان کے لیے استغفار کا حکم دیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کی بات مانو نہ کہ ان کے مشاجرات کی آڑ لے کر ان میں سے کسی پر طعن کرو!)

(الشريعة، ذکر الکف عما شجر بین اصحاب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 5، ص 2492، رقم 1980 وغیرہ)

بدعتی و خبیث رافضی

امام المسلمین امام احمد بن محمد بن حنبل (متوفی 241ھ) اہل سنت کے عقیدہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ذکر محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم اجمعین، و

الكف عن ذكر مساويهم و الخلاف الذى شجر بينهم فمن
سب اصحاب رسول الله ﷺ او احدا منهم او تنقصه او
طعن عليهم او عرض بعيبهم او عاب احدا منهم فهو مبتدع
رافضى حيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا بل
حبهم سنة و الدعاء لهم قرابة و الاقتداء بهم وسيلة و الاخذ
بآثارهم فضيلة.....

”رسول اللہ ﷺ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوبیاں ہی بیان کی جائیں،
ان کی لغزشوں اور ان کے باہمی اختلافات کے ذکر سے اجتناب کیا
جائے۔ جو شخص حضور کے صحابہ یا ان میں سے کسی ایک کو گالی دیتا یا ان کی
تنقیص کرتا ہے یا ان پر طعن کرتا ہے یا انھیں عیب دار کرنے کے درپے
ہو یا ان میں سے کسی ایک کی عیب جوئی کرے تو (خوب جان لو کہ) وہ
بدعتی (سستی نہیں)، رافضی خبیث مخالف (اہل حق) ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا
کوئی نفل و فرض قبول نہیں فرمائے گا۔ (اے مسلمان! یاد رکھ!) صحابہ کرام
سے محبت سنت ہے، ان کے لیے دعا قرب الہی کا ذریعہ ہے اور ان کی
پیروی وسیلہ نجات اور ان کے آثار کی اتباع باعث فضیلت ہے.....

..... لا يجوز لاحد ان يذكر شيئا من مساويهم و لا يظعن
على احد منهم بعيب و لا ينقص فمن فعل ذلك فقد وجب
على السلطان تاديبه و عقوبته ليس له ان يعفو عنه بل يعاقبه
و يستتبه فان تاب قبل منه و ان ثبت عاد عليه بالعقوبة و
خلده الحبس حتى يموت او يراجع۔

..... کسی کے لیے جائز نہیں کہ صحابہ کرام کی کم زوریوں میں سے کوئی کم
زوری بیان کرے اور کسی عیب و نقص کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک

پر بھی طعن کرے۔ پس جو اس فعل کا مرتکب ہو حاکم پر ضروری ہے کہ اس کی تادیب کرے اور اسے سزا دے معاف نہ کرے، نیز اس سے توبہ بھی کروائے: اگر وہ توبہ کر لے تو قہما، ورنہ پھر اسے سزا دے اور اسے ہمیشہ کے لیے قید کرے، یہاں تک کہ وہ مرجائے یا توبہ کر لے۔“

عبقات - بلبلة، احمد بن جعفر بن یعقوب.....، ج 1، ص 30

زبانیں بند رکھو!

امام صاحب یہی فرمایا کرتے:

ترحم علی جمیع اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) صغیرہم و کبیرہم و حدث بفضائلہم و امسک عما شجر بینہم۔
 ”سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بڑے سب صحابہ کے لیے رحمت کی دعا کرو، ان کے فضائل بیان کرو اور ان کے مابین ہونے والے مشاجرات کے ذکر سے زبانیں بند رکھو!“

(طبقات الحنابلة، محمد بن حبيب الاندراى نقل عن امامنا اشياء، ج 1، ص 294)

تمام بلادِ اسلامیہ کے علما کا مذہب

امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد (ابن ابی حاتم) رازی تمیمی (متوفی 327ھ) کہتے ہیں: میں نے اپنے والد گرامی اور امام ابو زرعہ رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اصولِ دین میں اہل سنت کا مذہب کیا ہے اور آپ تمام بلادِ (اسلامیہ) میں جن علما سے ملے ہیں ان کا اس بابت کیا عقیدہ ہے؟

ان دونوں بزرگوں نے اس سوال کے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ ہم تمام بلاد کے علما سے ملے جن میں حجاز و عراق اور شام و یمن بھی ہیں، ان سب کا مذہب یہی تھا کہ
 الترحم علی جمیع اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) و رضی اللہ

عنہم) و الکف عما شجر بینہم۔

”تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں رحمت کی دعا کرو اور ان کے باہمی مشاجرات

میں نہ پڑو!“ (شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ و الجماعۃ، اعتقاد

ابی زرۃ عبید اللہ.....، ج 1، ص 198، رقم 321)

قبر میں ایذا دینے والا

قاطع بدعت، حامی سنت، شیخ ابو محمد حسن بن علی بر بھاری (متوفی 329ھ) نے اپنی تصنیف لطیف ”شرح السنہ“ کے مختلف مقامات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق کلام کرتے فرمایا ہے:

و الکف عن حرب علی و معاویۃ و عائشۃ و طلحۃ و الزبیر، و من کان معہم، و لا تخصم (فیہم) و کل امرہم الی اللہ تبارک و تعالیٰ۔

”سادتاً علی و معاویہ، عائشہ، طلحہ و زبیر اور ان کے رفقا (صحابہ کرام) رضی اللہ عنہم کے باہمی محاربات میں خاموشی اختیار کرو، اس جھگڑے میں نہ پڑو؛ ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دو!“

(ان کے متعلق کوئی غلط بات ہرگز نہ سنو! کیوں کہ)

لا یسلم لک قلبک ان سمعت.....

”ایسی باتیں سننے سے دل سلامت نہیں رہتا.....“

..... و اعلم انہ من تناول احدا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم

فاعلم انہ انما اراد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وقد اذاه فی قبرہ۔

”..... اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جو کسی ایک صحابی کی بھی

تنقیص کرتا ہے دراصل وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کا ارادہ کرتا ہے اور

ایسا کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں تکلیف پہنچاتا ہے۔“

(شرح السنہ، ص 106, 112, 120، رقم 111, 124, 137 ملقطاً)

پاک و قابل تعریف

حجۃ الاسلام، زین المتقین، ولی کامل، امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی شافعی (متوفی

505ھ) فرماتے ہیں:

و اعتقاد اهل السنة تزكية جميع الصحابة و الثناء عليهم كما
اثني الله سبحانه و تعالى و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم و ما جرى بين
معاوية و علي رضي الله عنهما كان مبنياً على الاجتهاد لا
منازعة من معاوية في الامامة؛ اذ ظن علي رضي الله عنه ان
تسليم قتلة عثمان مع كثرة عشائره و اختلاطهم بالعسكر
يؤدي الى اضطراب امر الامامة في بدايتها فرأى التاخير
اصوب، و ظن معاوية ان تاخير امرهم مع عظم جنائتهم
يوجب الاغراء بالأئمة و يعرض الدماء للسفك۔ و قد قال
افاضل العلماء: كل مجتهد مصيب۔ و قال قائلون: المصيب
واحد، و لم يذهب الى تخطئة علي ذو تحصيل اصلا۔

”اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام پاک اور قابل تعریف ہیں،
جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ حضرت
معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے مابین جو اختلاف ہوا وہ اجتہاد پر مبنی
تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے امامت کا جھگڑا نہ تھا؛ حضرت علی
المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے
قبائل بھی زیادہ ہیں اور وہ لشکر میں بھی شامل ہیں لہذا ان قاتلین کو (فوراً

سزا دینا یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں کے (حوالے کرنا خلافت کے ابتدائی دور میں ہی اس میں خلل کا باعث ہوگا، لہذا آپ نے تاخیر کو زیادہ بہتر سمجھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ ان لوگوں کے اتنے بڑے جرم کے باوجود اس معاملہ میں تاخیر انھیں ائمہ کے خلاف ابھارنے کے مترادف ہے اور اس سے خون ریزی ہوگی۔ جلیل القدر علمائے کرام فرماتے ہیں کہ ہر مجتہد کی رائے صحیح ہوتی ہے (ولہذا سیدنا علی و معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کی رائے ہی درست تھی) لیکن دوسرے حضرات نے فرمایا: درست (ان میں سے) ایک ہے؛ مگر کسی بھی اہل علم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سوچ کو غلط قرار نہیں دیا۔“

(احیاء علوم الدین، کتاب قواعد العقائد، الرکن الرابع فی السمعیات و تصدیقہ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم.....، الاصل السابع، ص 146)

سپرِ و خدا کر دو!

محبوبِ سبحانی، قطبِ ربانی، شیخ سید ابو محمد عبدالقادر (حضور غوث پاک) بن ابو صالح موسیٰ احسنی حسینی جنبلی (متوفی 561ھ) فرماتے ہیں:

و اتفق اهل السنة على وجوب الكف عما شجر بينهم و الامساك عن مساويهم و اظهار فضائلهم و محاسنهم و تسليم امرهم الى الله عزوجل على ما كان و جرى من اختلاف على و طلحة و الزبير و عائشة و معاوية رضی اللہ عنہم عنہم على ما قدمنا بيانه و اعطاءه كل ذي فضل فضله۔

استاذ العلماء، کہنہ مشفق مترجم، علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی رضی اللہ عنہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے:

”اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان پنا

ہونے والے اختلاف اور جھگڑے کے بارے میں گفتگو سے باز رہنا چاہیے، ان کی برائی بیان کرنے سے رکنا اور ان کے فضائل و محاسن کا اظہار کرنا ضروری ہے اور جو کچھ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف رونما ہوا اسے پر و خدا کیا جائے؛ ہر صاحب فضل کی فضیلت کو تسلیم کیا جائے۔“

(الغنیۃ لطالبی طریق الحق، خلافة معاویة رضی اللہ عنہ،

ج 1، ص 206 - غنیۃ الطالبین اردو، صحابہ کرام کی فضیلت، ص 268)

حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نا صحابہ انداز میں مزید فرماتے ہیں:

فاحسن احوالنا الامساک فی ذلک و ردھم الی اللہ عزوجل
و هو احکم الحکمین و خیر الفاصلین، و الاشتغال بعیوب
انفسنا و تطہیر قلوبنا من امہات الذنوب و ظواہرہا من
موبقات الامور۔

”(صحابہ کرام کے اختلافات میں دخل اندازی کی بہ جائے) ہمارے لیے اس مسئلہ میں خاموش رہنا اور اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا زیادہ بہتر ہے؛ وہی تمام حاکموں سے بڑا حاکم اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمیں (ان باتوں میں پڑنے کی بہ جائے) اپنے نفسانی عیوب کی طرف متوجہ ہونے، بڑے بڑے گناہوں سے دلوں کو پاک کرنے اور مہلک باتوں سے (ظاہر و باطن کو) پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔“

(ایضاً، خلافة علی رضی اللہ عنہ، ج 1، ص 203 - ایضاً، صحابہ کرام کے مابین قتال، ص 266)

عمدہ نصیحت

امام و محدث، علامہ شہاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد قسطلانی شافعی (متوفی

923ھ) فرماتے ہیں:

و مما يجب ايضا: الامساك عما شجر بينهم، اى وقع بينهم من الاختلاف، و الاضراب عن اخبار المؤرخين و جهلة الرواة، و ضلال الشيعة و المبتدعين، القادحة فى احد منهم، قال صلى الله عليه وسلم: اذا ذكر اصحابى فامسكوا- و ان يلتمس لهم مما نقل من ذلك فيما كان بينهم من الفتن احسن التاويلات، و يخرج لهم اصوب المخارج، اذ هم اهل ذلك كما هو فى مناقبهم، و معدود من مآثرهم، مما يطول ايراد بعضه- و ما وقع بينهم من المنازعات و المجاربات فله محامل و تاويلات، فسبهم و الطعن فيهم اذا كان مما يخالف الادلة القطعية كفر، ككذب عائشة رضى الله عنها، و الا فبدعة و فسق..... و قال صلى الله عليه وسلم: الله، الله فى اصحابى! لا تتخذوهم غرضا من بعدى، من احبهم فقد احببني، و من ابغضهم فقد ابغضني، و من اذاهم فقد اذاني، و من اذاني فقد اذى الله، و من اذى الله فيوشك ان ياخذه الله- رواه المخلص الذهبى- (ابو طاهر محمد بن عبدالرحمن الذهبى) و هذا الحديث كما قال بعضهم خرج منخرج الوصية باصحابه على طريق التاكيد و الترغيب فى حبهم، و الترهيب عن بغضهم، و فيه اشارة الى ان حبهم من الايمان، و بغضهم كفر؛ لانه اذا كان بغضهم بغضا له كان كفرا بلا نزاع، للحديث السابق، لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه- و هذا يدل على كمال قربهم منه بتنزيلهم منزلة نفسه، حتى كان اذاهم واقع عليه و واصل

الیہ علیہ وسلم۔ ”والغرض“: الہدف الذی یرمی فیہ۔ فہو نہی عن رمیہم مؤکداً ذلک بتحذیرہم اللہ منہ، و ما ذاک الا لشدة الحرمة..... و قال مالک بن انس وغیرہ۔ فیما ذکرہ القاضی عیاض: من ابغض الصحابة فلیس لہ فی فیء المسلمین حق۔ قال: و نزع بایة الحشر و الذین جاءوا من بعدہم۔ الآیة۔ و قال: من غاظہ اصحاب محمد فہو کافر۔ قال اللہ تعالیٰ: لیغیظ بہم الکفار۔ و اللہ اعلم۔

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت میں یہ بات بھی واجب ہے کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہو اس پر خاموشی اختیار کرے، مؤرخین کی خبروں اور راویوں کی جہالت نیز شیعہ اور بدعتی لوگوں کی ایسی باتوں کی طرف توجہ نہ دے جو ان کی شان میں نقص ثابت کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو رُک جاؤ! نیز ان کے درمیان جو اختلاف ہو اس کی کوئی تاویل کرے اور اچھا ہی راستہ تلاش کرے کیوں کہ ان کی شان کے لائق یہی بات ہے۔ (اور یہ بھی یاد رکھے کہ) ان کے مابین جو محاربات و منازعت کا سلسلہ ہو اس کی کوئی وجہ ہے، تو ان کی بدگوئی کرنا یا ان پر طعن کرنا جو قطعی دلائل کے خلاف ہو وہ کفر ہے؛ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام تراشی۔ اور اگر دلائل قطعیہ کے خلاف نہ ہو تو بدعت و فسق ہے..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو! میرے بعد انھیں اپنی ’غرض‘ کا نشانہ نہ بنا لینا، جس نے ان سے محبت کی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے

تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرمائے۔ اسے ابو طاہر محمد بن عبدالرحمن مخلص ذہبی بغدادی (متوفی 393ھ) نے روایت کیا ہے۔ (انظر: المخلصیات و اجزاء اخرى لابی طاہر المخلص،

الجزء الاول من المخلصیات، ج 1، ص 232، رقم 312)
 اس حدیث کے متعلق بعض (علماء) فرماتے ہیں: اس حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں تاکید و وصیت، ان سے محبت کی ترغیب اور ان کے بغض سے ڈرانا ہے، نیز اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان سے محبت کرنا ایمان سے ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، کیوں کہ اگر ان سے بغض سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے ہو تو بلا اختلاف کفر ہے، جیسا کہ حدیث پاک گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا: لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسه۔ تم میں سے کوئی شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ طور کمال قرب حاصل تھا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی ذات کی جگہ رکھا یہاں تک کہ ان کی ایذا رسانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایذا رسانی قرار پائی۔

غرض کا مطلب

’غرض‘ کسے کہتے ہیں؟ مذکورہ حدیث پاک (اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم ’غرضا‘ من بعدی..... الخ) میں جو لفظ ’غرض‘ ہے، یہ اس نشانے کو کہتے ہیں جس پر تیر چلائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کی تاکید کے ساتھ اس بات سے بھی منع کیا گیا، اور ایسا اس کی شدت

حرمت کی بنا پر فرمایا گیا..... امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مالک بن انس وغیرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کرام سے بغض رکھے اس کا مسلمانوں کے مال فے میں (یعنی اس مال میں جو بغیر جنگ کے کافروں سے حاصل ہو) کوئی حصہ نہیں۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس بات پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حشر کی اس آیت سے استدلال کیا:

’اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھ! اے ہمارے رب! بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔‘ (پارہ 28، سورہ الحشر، آیت 10)

اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جلے وہ کافر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

’تا کہ ان (صحابہ) سے کافروں کے دل جلیں۔‘ (پارہ 26، سورہ الفتح، آیت 29)

واللہ اعلم۔“ (المواہب اللدنیة بالمنح المحمدیة، طبقات الصحابة،

الطبقة الثانية عشر: صیان، ج 2 ص 705، 706، 707)

کثیر محققین کی رائے

عارف باللہ، علامہ ابو عبد الرحمن عبد العزیز بن احمد ملتانی پرہاروی (متوفی

1239ھ) فرماتے ہیں:

ذکر کثیر من المحققین ان ذکرہ حرام مخافة ان یؤدی الی

سوء الظن ببعض الصحابة و یعضده الحدیث المرفوع: لا

یبلغنی احدا، من اصحابی عن احد شیئا فانی احب ان اخرج

الیکم و انا سلیم الصدر.....

”کثیر محققین (علماء و محدثین رضی اللہ عنہم) کہتے ہیں: صحابہ کرام کے مشاجرات کا تذکرہ حرام ہے کیوں کہ اندیشہ ہے کہ اس سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے (جو کہ ایمان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے) اور اس بات کی تائید حدیث مرفوعہ (یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان) سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا: کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں مجھ سے شکایت نہ کرے کیوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف صاف دل نکلوں.....

(سنن ابو داؤد، باب فی رفع الحدیث من المجلس، ج 4، ص 265، رقم 4860-
سنن ترمذی، باب فی فضل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 5، ص 710، رقم 3896 وغیرہ)

..... و انما اضطر اهل السنة الى ذكر تلك القصص لان
المبتدعة اخترعوا فيها مفتریات و اکاذیب حتی ذهب
بعض المتکلمین الی ان روایات التشاجر کلها کذب۔ و
نعم القول هو: ان بعضها ثابت بالتواتر و اجمع اهل
السنة و الجماعة علی تاویل ما ثبت منها تخلیصاً للجماعة عن
الوساوس و الهواجس و اما ما لم یقبل التاویل فهو مردود۔
فان فضل الصحابة و حسن سیرتهم و اتباعهم الحق ثابت
بالنصوص القاطعة و اجماع اهل الحق فکیف یعارضه
روایة الاحاد، سيما من الروافض المتعصبة الکذابين۔

..... اہل سنت کو ان واقعات کا تذکرہ مجبوراً کرنا پڑا (جو مشاجرات صحابہ
سے متعلق تھے) اس لیے کہ بدعتیوں نے ان میں بہت سی من گھڑت اور
جھوٹی باتیں شامل کر دی تھیں، یہاں تک کہ بعض متکلمین رضی اللہ عنہم فرمانے

لگے کہ مشاجرات صحابہ کی سب روایات جھوٹ کا پلندہ ہیں؛ اگرچہ یہ قول بہت اچھا ہے، مگر بعض واقعات تو اتر سے بھی ثابت ہیں ولہذا سب اہل سنت وجماعت نے اس پر اجماع کیا کہ ان میں سے ثابت شدہ واقعات کی مناسب تاویل کی جائے تاکہ عامۃ المسلمین و مساوس و شبہات سے بچیں اور وہ واقعات جو ناقابل تاویل ہیں انھیں رد کر دیا جائے کیوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت، حسن سیرت اور اتباع حق نصوص قاطعہ اور اہل حق کے اجماع سے ثابت ہے؛ پس یہ اکاؤنٹ روایتیں خصوصاً متعصب و کذاب رافضیوں کی (وضع کردہ) اس کے مقابل کیا حیثیت رکھتی ہیں۔“

(الناہیۃ عن طعن امیر المؤمنین معاویۃ رضی اللہ

عنه، فصل فی النهی عن ذکر التشاجر، ص 5)

دونوں جنتی

مجدد امت، اعلیٰ حضرت امام حافظ احمد رضا بن مفتی نقی علی ہندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1340ھ) فرماتے ہیں:

”اہل سنت کے عقیدہ میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم فرض ہے اور ان میں کسی پر طعن حرام اور ان کے مشاجرات میں خوض ممنوع۔ حدیث میں ارشاد اذا ذکر اصحابی فامسکوا۔ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو (بحث و خوض سے) رُک جاؤ! رب عزوجل کہ عالم الغیب و الشہادہ ہے، اس نے صحابہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسمیں فرمائیں:

1- مؤمنین قبل الفتح، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ و جہاد کیا۔

2- اور مؤمنین بعد الفتح، جنہوں نے بعد کو۔ (اللہ کی راہ میں خرچ اور جہاد کیا)

فریق اول کو دوم پر تفضیل عطا فرمائی کہ لا یستوی منکم من انفق

من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا۔

تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا: و کلا وعد اللہ الحسنی۔ دونوں فریق سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔

اور ان کے افعال پر جاہلانہ نکتہ چینی کا دروازہ بھی بند فرما دیا کہ ساتھ ہی ارشاد ہوا: و اللہ بما تعملون خیر۔ اللہ کو تمہارے اعمال کی خوب خبر ہے۔ یعنی جو کچھ تم کرنے والے ہو وہ سب جانتا ہے بہ اس میں ہمہ سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا، خواہ سابقین ہوں یا لاحقین۔

اور یہ بھی قرآن عظیم سے ہی پوچھ دیکھیے کہ مولیٰ عزوجل جس سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا اس کے لیے کیا فرماتا ہے (اس کے بارے میں فرماتا ہے: ان الذين سبقت لهم منا الحسنی اولئك عنها مبعدون لا یسمعون حبیبسہا و ہم فیما اشتہت انفسہم خلدون لا یحزنہم الفرع الا کبر و تتلقیہم الملائکة ہذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ بے شک جن سے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں اس کی بھنک (دھیمی سی آواز) تک نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانتی مرادوں میں ہمیشہ رہیں گے انھیں غم میں نہ ڈالے گی بڑی گھبراہٹ، فرشتے ان کی پیش والی کو آئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔

سچا اسلامی دل اپنے رب عزوجل کا یہ ارشاد عام سن کر کبھی کسی صحابی پر نہ سوئے ظن کر سکتا ہے نہ اس کے اعمال کی تفتیش؛ بہ فرض غلط (صحابہ نے)

کچھ بھی کیا، تم حاکم ہو یا اللہ، تم زیادہ جانو یا اللہ، اَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمَ اللّٰہُ (کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو)، دلوں کی جانے والا سچا حاکم یہ فیصلہ فرما چکا کہ مجھے تمہارے سب اعمال کی خبر ہے میں تم سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا، اس کے بعد مسلمان کو اس کے خلاف کی گنجائش کیا ہے۔ ضرور (سیدنا معاویہ سمیت) ہر صحابی کے ساتھ حضرت کہا جائے گا، ضرور رضی اللہ عنہ کہا جائے گا، ضرور اس کا اعزاز و احترام فرض ہے۔ و لو کرہ المجرمون۔ (اگرچہ مجرم برائے ہیں)“

(العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية، ج 29، ص 227، 228، مسئلہ 79)
اللہ پاک ہمیں ان دونوں باتوں کو ہر لمحہ محفوظ و ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معاملات میں مستغرق ہونے کے بہ جائے اپنے قلب و اعمال کی اصلاح کی توفیق بخشے۔ امین بحرمۃ سید المرسلین و آلہ الطاہرین!!

بعض کتب

انہی امور کے پیش نظر لازم تھا کہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی خیر سے ہی کیا جائے۔ اسی بنا پر آپ کے بلند و بالا مقام کے بیان، خصائل و اوصاف کے اظہار اور آپ کی توہین و تنقیص جیسے جرمِ عظیم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے جہاں محدثین عظام و علمائے کرام نے کتب احادیث و تراجم میں مستقل ابواب باندھے ہیں وہیں آپ کی شان رفیع کے بیان اور آپ رضی اللہ عنہ پر کیے گئے زنادقہ و رافضہ کے اعتراضات کے مسکت جوابات پر مشتمل مستقل کتب بھی تحریر فرمائی ہیں۔ ان تمام کتب کا احاطہ تو مشکل ہے، البتہ ان میں سے بعض یہ ہیں:-

1- حلم معاویہ.

عربی زبان میں لکھا گیا یہ رسالہ حافظ ابو بکر عبد اللہ بن محمد (ابن ابی الدنیا) قرشی

بغدادی (متوفی 281ھ) کا ہے، اس کا موضوع نام سے ہی ظاہر ہے۔ یہ 33 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں تقریباً 40 روایات ہیں۔

داؤد البشار نے ابراہیم صالح کی تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے۔ میرے پاس اس کا 1424ھ میں شائع ہونے والا نسخہ ہے۔ اس رسالے کا تذکرہ امام جلال الدین سیوطی شافعی (متوفی 911ھ) نے ”تاریخ الخلفاء“ میں بہ ایں الفاظ کیا ہے:

و قد افر د ابن ابی الدنیا و ابوبکر بن ابی عاصم تصنیفا فی حلم معاویة۔

یعنی ابن ابی الدنیا اور ابوبکر بن ابی عاصم کی سیدنا معاویہ میں پائی جانے والی صفت حلم (بروباری) پر کتاب ہے۔

(تاریخ الخلفاء، معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ص 152)

2- فضائل امیر المؤمنین معاویة بن ابی سفیان.

عربی زبان میں لکھا گیا یہ رسالہ امام ابوالقاسم عبید اللہ بن محمد سقطی بغدادی (متوفی 406ھ) کا ہے۔ اس میں ہر طرح کی روایات موجود ہیں۔ اس کے 28 صفحات ہیں اور تقریباً 30 سے زائد روایات۔ یہ رسالہ بہ صورت مخطوطہ میرے پاس موجود ہے۔

3- تطہیر الجنان.

عربی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب شیخ الاسلام حافظ ابوالعباس احمد بن محمد (ابن حجر) مکی شافعی (متوفی 974ھ) کی ہے۔ جس کا پورا نام ”تطہیر الجنان و اللسان عن الخطور والتفوه بثلث سیدنا معاویة بن ابی سفیان“ ہے۔ اس کتاب کی تالیف پر ہندوستان کے بادشاہ سلطان ہمایوں کی درخواست نے آپ کو آمادہ کیا، جس کا سبب بیان کرتے ہوئے آپ خود فرماتے ہیں: سلطان کی درخواست کا سبب یہ تھا کہ اس کے ملک (ہندوستان) میں ایک ایسی قوم پیدا ہو گئی جو سیدنا

معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص کرتی اور ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتی جن سے آپ بری ہیں۔ کیوں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی ایسی تاویل نہ ہو سکے جو آپ کی ذات پاک کو گناہ سے بری کر دے..... ولہذا میں نے سلطان کی درخواست قبول کر لی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ امیر المؤمنین و مولیٰ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الاسبغی کے ”موضوع سے متعلقہ“ حالات بھی بیان کر دیے۔

(تطہیر الجنان، ص 2، ملخصاً)

امام ابن حجر کی یہ کتاب ایک مقدمہ، چند فصول اور خاتمہ پر مشتمل تقریباً 100 صفحات کو محیط نہایت ہی عمدہ کتاب ہے۔ اسے مکتبۃ الحقیقہ، ترکی نے آپ کی دوسری کتاب ”الصواعق المحرقة“ کے ساتھ شائع کیا ہے۔

4- الناہیۃ عن طعن امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ.

عربی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب عارف باللہ، شیخ عبدالعزیز بن احمد پرہاروی نور اللہ مرقدہ (متوفی 1239ھ) کی ہے۔ حضرت مؤلف نے اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن کی ممانعت، مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کا موقف، سیدہ طیبہ طاہرہ اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہما کے فضائل جیسے موضوعات کا بھی احاطہ کیا ہے۔ 46 صفحات پر مشتمل اس کتاب کو مکتبۃ الحقیقہ، ترکی نے شائع کیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیض احمد اویسی رضی اللہ عنہ نے ”الرفاہیہ فی الناہیہ عن ذم معاویہ“، عرف ”حضرت امیر معاویہ“ کے نام سے کیا ہے اور اس میں عمدہ حواشی کا اہتمام فرمایا ہے۔ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ 224 صفحات پر مشتمل اس کتاب کو مکتبۃ اویسیہ رضویہ، بہاول پور نے شائع کیا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت مؤلف و مترجم کو مسلمانوں کی طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے اور جنت میں مزید مقامات رفیعہ عطا فرمائے۔ آمین بحرمۃ ظلہ و یس!

اس کے علاوہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب کی ایک کتاب ”صرف العنان عن مطاعن معاویہ بن ابی سفیان“ بھی ہے، یہ بھی بہت عمدہ تالیف ہے۔

5- النار الحامیہ لمن ذم المعاوہ.

اُردو زبان میں لکھی گئی یہ کتاب مفسر قرآن مولانا نبی بخش بن محمد وارث حلوانی (متوفی 1365ھ) کی ہے۔ اس میں آپ نے فضائل صحابہ، اجتہاد اور مناقب سیدنا معاویہ وغیرہ پر کلام کیا ہے۔ یہ کتاب 171 صفحات پر مشتمل ہے۔ اسے نئی ترتیب و تہذیب کے ساتھ حضرت مولف کے شاگرد رشید پیرزادہ اقبال احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتبہ نبویہ، لاہور سے شائع کیا ہے۔ اس کی اولاً 1357ھ، میں اشاعت ہوئی اور بعد ازاں 1421ھ، میں۔

6- امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک نظر.

اُردو زبان میں لکھی گئی یہ کتاب مشہور مفسر و محدث، شارح مشکوٰۃ، مفتی احمد یار بن محمد یار خاں نعیمی حنفی (متوفی 1391ھ) کی ہے۔ حضرت علیہ الرحمۃ و الرضوان نے نہایت عمدہ پیرایہ سے اسے مرتب فرمایا ہے۔ آپ نے اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک علی سیدہم و علیہم الصلوٰۃ و السلام کے فضائل اور آل پاک کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا حسن سلوک بھی بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی نہایت اہم موضوعات پر حکیمانہ انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ یہ ایک عام فہم و پراثر تصنیف ہے جس کا مطالعہ کم پڑھے لکھے آدمی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ کتاب کئی مرتبہ چھپ چکی ہے، میرے پاس اس کا قادری پبلشرز، لاہور کا شائع کردہ نسخہ ہے جو کہ 109 صفحات پر مشتمل ہے۔

اس کتاب کی تحقیق و تخریج شیخ الحدیث و التفسیر مفتی خواجہ محمد اشرف القادری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادے مولانا محمد عبدالرحمن قادری اشرفی کر رہے ہیں۔ ان شاء اللہ محققہ و مخرجہ نسخہ جلد منظر عام پر آجائے گا۔

7- دشمنانِ امیر معاویہ کا علمی محاسبہ۔

اردو زبان میں لکھی گئی یہ ضخیم کتاب، استاذ العلماء، عمدۃ المحققین، حضرت العلام مولانا محمد علی بن غلام محمد نقش بندی حنفی نور اللہ مرقدہ کی ہے، جسے آپ نے بعض زنادقہ کے رد میں لکھا۔ یہ کتاب 2 جلدوں اور 1056 صفحات پر مشتمل ہے۔ اسے مکتبہ نور یہ حسیہ، بلال گنج، لاہور نے شائع کیا ہے۔

8- سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی نظر میں۔

یہ کتاب مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد عرفان بن حافظ الحدیث سید جلال الدین شاہ مشہدی حنفی اطال اللہ عمرہ کی ہے۔ 128 صفحات پر مشتمل یہ کتاب سنی جمعیت عوام، برطانیہ نے شائع کی ہے۔

9- اسکات الکلاب العاویۃ بفضائل خال المؤمنین معاویۃ رضی اللہ عنہما۔

عربی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب ابو معاذ محمود بن امام کی ہے، جسے مؤلف نے ایک مقدمہ اور آٹھ فصول پر تقسیم کیا ہے۔ 194 صفحات پر مشتمل یہ کتاب مکتبہ العلوم و الحکم، الریاض نے شائع کی ہے۔

10- معاویۃ بن ابی سفیان شخصیتہ و عصرہ الدولۃ السفیانیۃ۔

عربی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب دکتور علی محمد صلابی کی ہے۔ اس میں پانچ فصلیں ہیں جن کے تحت مختلف امور پر بحث کی گئی ہے۔ 731 صفحات پر مشتمل یہ کتاب دار ابن کثیر، دمشق نے شائع کی ہے۔

11- معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما امیر المؤمنین۔

عربی زبان میں لکھی گئی 300 صفحات پر مشتمل یہ کتاب شحاتہ محمد صقر کی ہے۔ اس کا پورا نام ”معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما امیر المؤمنین و کاتب وحی النبی الامین علیہ وسلم، کشف شبہات و رد مفتریات“

ہے۔ موصوف نے اسے بڑے عمدہ انداز میں مرتب کیا ہے۔ اس کے چند عنوانات یہ ہیں: من فضائل معاویة رضی اللہ عنہ فی القرآن الکریم۔ من فضائل معاویة رضی اللہ عنہ فی السنة النبویة الصحیحة۔ و من فضائل معاویة رضی اللہ عنہ دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث لا تصح فی شان معاویة رضی اللہ عنہ۔ مدحا و ذما۔ تعظیم معاویة رضی اللہ عنہ لسنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توقیر معاویة رضی اللہ عنہ لآل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم معاویة رضی اللہ عنہ۔ تواضع معاویة رضی اللہ عنہ و زهدہ۔ حلم معاویة رضی اللہ عنہ و رجاء صدرہ۔ جہاد معاویة رضی اللہ عنہ و فتوحاتہ۔ کشف شبہات الشیعة حول معاویة رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ یہ کتاب دار الخلفاء الراشدین، اسکندریہ وغیرہ نے شائع کی ہے۔

یہ تھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر مستقل لکھی گئیں چند ایک کتب؛ اور صرف یہی نہیں ان کے علاوہ بھی علماء و محدثین نے آپ رضی اللہ عنہ پر کافی کچھ لکھا ہے۔ آپ پر لکھی گئیں عربی و فارسی اور اردو کتب تین درجن سے زائد میرے پاس موجود ہیں اور یہاں میں نے صرف انہی میں سے بعض کا تذکرہ کیا ہے۔

اللہ رب العزت ہر اس سنی محرر کو جزائے خیر عطا فرمائے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحبت کا احترام کرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا۔

مَنْ هُوَ مُعَاوِيَةَ؟

یہ کتاب اس وقت آپ کے پیش نظر ہے۔ اللہ عزوجل کی توفیق سے میں نے اس میں بیان کیا ہے کہ رب العالمین جد جلالہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، حفاظ و محدثین، علمائے ربانیین، مجددین اور اولیائے کاملین اس بابت کیا کہتے ہیں کہ ”امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟“

میں اپنے رب نزوحل کی بارگاہ بے کس پناہ میں بہ صد عجز و نیاز عرض پرداز ہوں کہ میرا مالک میری اس تخریر کو پراثر کرنے، اہل ایمان کے دلوں کی چلا کا ذریعہ، گم گشتہ راہ کی راہ نما اور میرے لیے ذریعہ نجات بنائے!!

کتاب کی ترتیب

✽ اس کتاب میں ایک مقدمہ اور 9 ابواب ہیں، پہلا باب آیت قرآنی، دوسرا احادیث نبوی، تیسرا آثار صحابہ، چوتھا ارشادات تابعین، پانچواں اقوال تبع تابعین، چھٹا علمائے احناف کا نظریہ، ساتواں مالکیہ کا نقطہ نظر، آٹھواں حنابلہ کی آراء گرامی اور نواں باب شوافع کے فرامین پر مشتمل ہے۔

✽ چونکہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں اکثریت اہل سنت کی ہے، اور فقہائے اربعہ میں سے کسی ایک کے مقلد ہیں۔ مثلاً ویب سائٹ:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Muslim-majority_countries

کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق مختصر نقشہ یہ ہے:

| ملک | کل آبادی (تقریباً) | مسلمان (معروف) | سنی (معروف) | فقہ |
|------------|--------------------|----------------|-------------|------------|
| پاکستان | 172,800,000 | 97% | 85-90% | حنفی |
| بنگلہ دیش | 142,319,000 | 89% | 99% | حنفی |
| ترکی | 73,722,988 | 99% | 85-90% | حنفی وغیرہ |
| قازقستان | 16,433,000 | 70.2% | 99% | حنفی |
| تاجکستان | 7,215,700 | 97% | 93% | حنفی |
| کرغستان | 5,356,869 | 75% | 99% | حنفی |
| ترکمانستان | 5,110,023 | 89% | 99% | حنفی |

| | | | | |
|-------|--------|-------|-------------|-----------|
| ماکی | 95% | 50.4% | 155,215,573 | نائیجیریا |
| ماکی | 99% | 98% | 10,383,577 | تیونس |
| ماکی | 99% | 97% | 6,173,579 | لیبیا |
| ماکی | 99% | 99% | 34,895,000 | الجیریا |
| شافعی | 99% | 86.1% | 228,582,000 | انڈونیشیا |
| شافعی | 99% | 90% | 79,089,650 | مصر |
| شافعی | 99% | 100% | 9,558,666 | صومالیہ |
| شافعی | 99% | 100% | 350,000 | مالدیپ |
| حنبلہ | 85-90% | 100% | 27,601,038 | عرب شریف |
| حنبلہ | 90% | 77.5% | 744,029 | قطر |

اور ہر سنی اللہ ورسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ و سلم کے ارشادات و احکامات کی بجا آوری کے بعد صحابہ و تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے فرامین کو اہمیت دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے شرعی مسائل میں انہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ اسی لیے ہم نے بھی اس کتاب میں قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ رکھنے والے ان اکابر اور ان کے سچے متبعین کی طرف ہی رجوع کیا ہے۔

✽ ہر باب کے تحت سنین وفات کے اعتبار سے اقوال نقل کیے ہیں، یعنی جن بزرگوں کا وصال پہلے ہوا ان کے پہلے، اور جن کا بعد میں ہوا ان کے اقوال بعد میں نقل کیے ہیں۔

✽ ہر بات باحوالہ لکھی ہے اور محولہ کتاب کا نام حاشیہ میں لکھنے کے بہ جائے بریکٹ میں ہر بات کے ساتھ لکھا ہے تاکہ قاری اس کو نظر انداز نہ کرے؛ نیز صرف بات ہی نہیں، باحوالہ بات یاد کی جائے۔

❁ حوالہ دینے میں صرف مَحْوَلہ کتاب کے نام پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ مُرَابَعَت میں آسانی کے لیے کتاب کا نام، اور مَرْقُومہ بالا عبارت کا باب یا فصل، بہ صورت طوالت ابتدائی چند الفاظ، جلد نمبر اور صفحہ نمبر وغیرہ بھی درج کیا ہے اور مزید آسانی کے لیے آخر میں مآخذ و مراجع کی فہرست دے دی ہے جس میں کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کا نام، سن وفات اور کتاب کا سن طباعت درج کر دیا ہے۔

اظہارِ امتنان

❁ میں ان علمائے عظام کا بہ صد ادب شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ عاجز کی درخواست پر بہ غرضِ اصلاح اپنا قیمتی وقت اس کتاب کے مسودہ کے بالاستیعاب مطالعہ میں صرف فرمایا بالخصوص:

محسن اہل سنت، شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت پیرسائیں مولانا غلام رسول قاسمی دام ظلہ مصنف کتب کثیرہ، شیخ الحدیث، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حسن قادری دام لطفہ استاذ العلماء، شیخ الحدیث، حضرت علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی زید مجدہ فاضل جلیل، عالم نبیل، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالشکور الباروی زید علمہ دافع رفس و خروج، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نوزی زید مجدہ نقاد و پارکھ، حضرت مولانا بلفضل اولانا ابو حمزہ محمد سجاد المدنی دام اقبالہ شیخ الحدیث، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسان رضا عطاری المدنی دامت بر کاتہ فاضل جلیل، حضرت مولانا حافظ القاری ابو معاویہ محمد شوکت علی قادری رضوی مد ظلہ اللہ پاک ان تمام علمائے عظام کو سایہ عافیت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین!!

علاوہ ازیں محبت مکرم محمد رضا الحسن قادری زیدت مکارم و سنت عزائم مؤسس دارالاسلام، لاہور بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کتاب کی آرائش کتابت و زیبائش طباعت میں خصوصی دل چسپی ظاہر کی۔ رب تعالیٰ ان کی یہ

خدمت قبول فرمائے۔ آمین!

اور فضیلت مآب محترم جناب عمران حسین چوہدری صاحب (چیرمین: سٹی فاؤنڈیشن، لاہور/ بریڈ فورڈ) کا نہایت احسان مند ہوں کہ اس کتاب کا ایک ایڈیشن انہوں نے اپنی تنظیم سے شائع کیا۔

نیز برادرِ حقیقی حافظ احمد رضا صاحب نے بڑے خلوص سے کمپوزنگ کے فرائض

انجام دیے۔ جزا الہم اللہ تعالیٰ فی الدارين۔

اعتذار

باوجودے کہ اغلاط کی دُرستی کی مقدور بھر کوشش کی گئی ہے، لیکن صدورِ خطا کہ عوارضِ بشریہ کا لازمہ ہے، سے بھی انکار نہیں؛ اس لیے قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر دورانِ مطالعہ کسی قسم کی غلطی پائیں تو ضرور آگاہ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ شکر یہ کے ساتھ اصلاح کی جائے گی۔

راجع الی رحمة الرحمن

محمد لقمان عفا عنہ المنان

یوم مشہود جمعہ المبارک 3 رجب المرجب 1433ھ

0300-6235167

آیت قرآنی

مہربان کی رحمت

مدینہ طیبہ سے دمشق کی طرف جاتے ہوئے جب آدھا راستہ (تقریباً چودہ منزل) طے کر لیا جائے تو ایک بڑی معروف جگہ آتی ہے جسے ”تبوک“ کہا جاتا ہے۔

(فتح الباری بشرح صحیح البخاری لابن حجر، کتاب المغازی، باب

غزوة تبوك، وھی غزوة العسرة، باب 78، ج 8، ص 111، رقم 4415)

یہاں سید عالم ﷺ کی معیت میں وین حق کی سر بلندی کے لیے کفار کے ساتھ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک جنگ لڑنے گئے تھے جسے ”غزوة تبوک“ کے علاوہ، جنگ

”فاضحہ“ (رُسا کرنے والی جنگ) اور غزوة عسرت (تنگی والا غزوة) بھی کہا جاتا

ہے۔ (انظر: المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، غزوة تبوك، ج 1، ص 419)

”فاضحہ“ اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں پیچھے رہنے والے منافقین کو

ذلیل و رُسا کرنے والی آیات نازل ہوئیں جیسے: سورہ توبہ کی آیت: فرح

المخلفون وغیرہ۔

(انظر: شرح الزرقانی علی المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، غزوة تبوك، ج 4، ص 67)

اور ”عسرت“ کی وجہ تسمیہ سیدنا عقیل بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے پوتے امام ابو عبد اللہ

محمد بن عبد اللہ ہاشمی مدنی (متوفی 140ھ) یہ بیان کرتے ہیں کہ

خرجوا فی غزوة تبوك الرجال و الثلاثة علی بعیر واحد و

خرجوا فی حر شدید فاصابهم یوم عطش شدید..... فكان

ذلك عسرة من الماء و عسرة من الظهر و عسرة من النفقة۔

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو (سوار یوں کی کمی کی وجہ سے) ایک سواری پر دو دو، تین تین سوار تھے، اُس دن انھیں شدید پیاس سے بھی سابقہ پڑا تو اسی پانی، سوار یوں اور نفقہ کی کمی کے سبب یہ غزوہ ”عسرت“ کے نام سے موسوم ہوا۔“

(تفسیر عبد الرزاق، جز 10، تحت سورة التوبة، آية 117، رقم 1139، (117) وغیرہ)

اسی غزوہ کے شرکاء کے بارے میں سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی:

لقد تاب الله على النبي و المهاجرين و الانصار الذين اتبعوه
في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم
تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم۔

”بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں اس غیب بتانے والے (نبی) اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں پھر ان پر (ان کا پروردگار) رحمت سے متوجہ ہوا بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔“ (پارہ 11، سورہ التوبہ، آیت 117)

یہی وہ غزوہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و اعانت کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی شرکت کی۔

(انظر: معاوية بن ابي سفيان رضى الله عنهما امير المؤمنين و كاتب وحي

النبي الامين صلی اللہ علیہ وسلم، كشف شبهات و رد مفتریات، ص 100، وغیرہ)

اور دوسرے صحابہ کے ساتھ اس آیت کے مصداق بنے۔

خط پڑھنے والے کون تھے؟

اسی موقع پر ایک واقعہ بھی پیش آیا جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے،

اور یہ واقعہ آپ کی ذات پر رسول اللہ ﷺ کے اعتماد کی بھی غمازی کرتا ہے۔ ہوا یوں کہ تبوک کے مقام پر ہرقل (ہرقل) بادشاہ کا ایک قاصد خط لے کر حضور سرور کائنات ﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، اسی کا بیان ہے:

فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك۔

”میں ہرقل کا خط لے کر تبوک کے مقام پر بارگاہ اقدس میں پہنچا۔“

فاذا هو جالس بين ظهراي اصحابه محتيا على الماء، فقلت: اين صاحبكم؟ قيل: ها هو ذا فاقبلت امشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فوضعه في حجره ثم قال ممن انت؟ فقلت: انا احد تنوخ۔

”تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ پانی کے قریب اپنے صحابہ کے درمیان اس طرح تشریف فرما ہیں کہ حضور نے اپنی ٹانگوں کے گرد ہاتھوں سے حلقہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا: تمہارے صاحب (ﷺ) کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا: وہ ہیں! میں چلتا ہوا بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے حضور بیٹھ گیا، اور (ہرقل) کا خط پیش کیا۔ آپ نے اسے اپنی گود میں رکھ لیا اور مجھ سے گویا ہوئے: تو کون ہے؟ میں نے عرض کی: (قبیلہ) تنوخ کا ایک فرد۔“

(بعد ازاں رسول اللہ ﷺ نے کچھ گفتگو فرمائی)

ثم انه ناول الصحيفة رجلا عن يساره۔

”پھر حضور نے وہ خط اپنی بائیں جانب بیٹھے ایک آدمی کو دیا۔“

تو میں نے (وہاں موجود لوگوں) سے پوچھا:

من صاحب كتابكم الذي يقرالكم؟ قالوا: معاوية۔

”خط پڑھنے والے یہ کون صاحب ہیں؟ وہ کہنے لگے: یہ معاویہ ہیں۔“ رضی اللہ عنہ

(مسند احمد، مسند المکین، حدیث التنوخی عن

النبی ﷺ، ج 24، ص 417، 418، رقم 15655)

قطعہ جنتی

مذکورہ آیت مبارکہ کے تحت مفسر قرآن، شارح احادیث رحمت عالمیان، حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نعیمی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والے سارے صحابہ قطعہ یقینی جنتی ہیں، جو ان کے جنتی ہونے میں شک کرے وہ اس آیت کریمہ اور اس جیسی بہت سی آیات کا منکر ہے۔ ان حضرات کا جنتی ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا یا حضور ﷺ کا نبی ہونا، کہ توحید الہی اور نبوت مصطفوی بھی قرآنی آیات سے ثابت ہے اور ان کا جنتی ہونا بھی اسی قرآن کی آیات سے ثابت ہے؛ یہ فائدہ: لقد تاب اللہ..... الخ سے حاصل ہوا کہ اس مضمون کو لام اور قد تاکید سے شروع فرمایا گیا۔“

(تفسیر نعیمی، ج 11، ص 116 تحت سورة التوبة آیت 117)



احادیث نبوی

دُعائے ہدایت

قال ابو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد
عن ابي عميرة قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا و
اهده و اهد به۔

”حضرت سیدنا ابو عمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی: اے اللہ! اسے ہادی و مہدی بنا، اسے
ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے!“

(التاریخ الکبیر، عبد الرحمن بن ابی عمیرہ، ج 5، ص 240، رقم 791-الطبقات
الکبریٰ، عبد الرحمن بن ابی عمیرہ المزنی۔ ج 7، ص 292، رقم 3746-حدیث
عباس ترقفی، مخطوطہ)

اس کے ناقلین

مستجاب الدعوات غلاموں کے آقا و مولیٰ کی یہ دُعا عظیم المرتبت محدثین، فقہاء،
متکلمین، مؤرخین، مفسرین اور کثیر علمائے اپنی کتب میں نقل کی ہے، حصول برکت
کے لیے کچھ ناقلین کے اسماء مع اسمائے کتب ملاحظہ فرمائیں:

1- امام حافظ ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی (متوفی 241ھ)

(مسند احمد، حدیث عبد الرحمن بن ابی عمیرہ، ج 29، ص 426، رقم 1789)

2- حافظ ابو بکر احمد بن ابی خیمہ (متوفی 279ھ)

(التاریخ الکبیر (السفر الثانی) حرف العین، ج 1، ص 349)

- 3- امام حافظ ابو عيسى محمد بن عيسى ترمذى (متوفى 279 هـ)
(سنن ترمذى، باب مناقب معاوية.....، ج 5، ص 687، رقم 3842)
- 4- امام ابو بكر احمد بن عمرو شيبانى (ابن ابى عاصم) (متوفى 287 هـ)
(الآحاد و المثنى، عبد الرحمن بن ابى عميرة المزنى
رضى الله عنه، ج 2، ص 358، رقم 1129)
- 5- امام حافظ ابو بكر احمد بن محمد الخلال حنبلى (متوفى 311 هـ)
(السنة، باب ذكر ابى عبد الرحمن معاوية.....، ج 2، ص 450، رقم 697 و 699)
- 6- امام حافظ ابو القاسم عبد الله بن محمد بغوى بغدادى (متوفى 317 هـ)
(معجم الصحابة، عبد الرحمن بن ابى عميرة.....، ج 4، ص 490، رقم 1948)
- 7- حافظ ابو الحسين عبد الباقي بن قانع اموى بغدادى (متوفى 351 هـ)
(معجم الصحابة، عبد الرحمن بن ابى عميرة، ج 2، ص 146)
- 8- امام حافظ ابو القاسم سليمان بن احمد شامى طبرانى (متوفى 360 هـ)
(المعجم الاوسط، من اسمه احمد، ج 1، ص 205، رقم 656- مسند
الشاميين، سعيد، عن يونس بن ميسرة.....، ج 1، ص 181، رقم 311)
- 9- امام ابو بكر محمد بن حسين آجرى شافعى (متوفى 360 هـ)
(الشريعة، باب ذكر دعاء النبى ﷺ، ج 5، ص 2436، رقم 1915)
- 10- أستاذ الحد ثين امام حافظ ابو محمد عبد الله بن محمد النصارى اصبهاني (ابى الشيخ) (متوفى
369 هـ) (طبقات المحدثين يا صبهان و الواردين عليها، ج 2، ص 343)
- 11- شيخ ابو الحسين محمد بن عبد الله دقاق بغدادى (ابن اخى ميسى) (متوفى 390 هـ)
(فوائد، ص 211، رقم 452)
- 12- حافظ ابو نعيم احمد بن عبد الله اصبهاني (متوفى 430 هـ)
(تاريخ اصبهان، ابراهيم بن عيسى الزاهد.....، ج 1، ص 221- معرفة الصحابة،
عبد الرحمن بن ابى عميرة المزنى، ج 4، ص 1836، رقم 4634- حلية الاولياء و
طبقات الاصفياء، بشر بن الحارث و منهم.....، ج 8، ص 358)

13- حافظ ابوذر عبید بن احمد انصاری خراسانی (متوفی 434ھ)

(جزء فيه احاديث من مسموعات، ص 51)

14- حافظ ابو بكر احمد بن علي (خطيب بغدادی) (متوفی 463ھ)

(تالی تلخیص المتشابہ، عبد الرحمن بن ابی عمیرہ.....، ج 2، ص 539، رقم 328)

15- حافظ ابو القاسم اسماعیل بن محمد قرشی اصبہانی (قوام السنۃ) (متوفی 535ھ)

(الحجة فی بیان المحجة و شرح عقیدة اهل السنة، فصل

فی فضل معاویة رضی اللہ عنہ، ج 2، ص 404، رقم 379)

16- حافظ علی بن حسن (ابن عساکر) (متوفی 571ھ)

(تاریخ دمشق، ذکر معاویة بن صخر ابی سفیان.....، ج 59، ص 80,81,82,83، وغیرہ)

17- حافظ ابو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن ازوی اشبیلی (ابن خراط) (متوفی 581ھ)

(الاحکام الشرعیة الکبری، باب فضل معاویة بن

ابی سفیان رضی اللہ عنہ.....، ج 4، ص 428)

18- علامہ ابو السعادات مبارک بن محمد شیبانی، (ابن الاثیر) جزری (متوفی 606ھ)

(جامع الاصول، معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ج 9، ص 107)

19- امام عزالدین ابو الحسن علی بن محمد جزری (ابن الاثیر) (متوفی 630ھ)

(اسد الغابة فی معرفة الصحابة، حرف المیم، معاویة

بن صخر.....، ج 4، ص 155، رقم 4985)

20- امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی شافعی (متوفی 676ھ)

(تهذیب الاسماء و اللغات، حرف المیم، ج 2، ص 104)

21- علامہ ولی الدین ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ تبریزی (متوفی 741ھ)

(مشکوٰۃ المصابیح، باب جامع المناقب، الفصل الثانی، ج 3، ص 1758، رقم 6244)

22- حافظ ابو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن مزنی (متوفی 742ھ)

(تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، عبد الرحمن بن ابی عمیرہ.....، ج 17، ص 322)

23- امام حافظ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی (متوفی 748ھ)

(سیر اعلام النبلاء، معاویة بن ابی سفیان.....، ج 3، ص 125, 126- معجم الشیوخ
الکبیر، ابراہیم بن محمد بن احمد، ج 1، ص 155- تاریخ اسلام و وفیات المشاہیر
و الاعلام، حرف المیم، ج 4، ص 301)

24- علامہ صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدی (متوفی 764ھ)

(الوافی بالوفیات، ابن ابی عمرة، ج 18، ص 124)

25- حافظ عماد الدین ابوالقداسماعیل بن عمر (ابن کثیر) قرشی (متوفی 774ھ)

(جامع المسانید و السنن الہادی لاقوم سنن، عبد الرحمن بن ابی عميرة.....،

ج 5، ص 536- البداية و النهاية، ترجمة معاوية.....، ج 8، ص 129)

26- امام شہاب الدین ابوالفضل احمد بن علی (ابن حجر) شافعی (متوفی 852ھ)

(اتحاف المہرة بالفوائد المبتكرة من اطراف العشرة، من مسند عبد الرحمن بن ابی
عميرة.....، ج 10، ص 625، رقم 13513- اطراف المسند المعتلی باطراف المسند

الحنبلی، من مسند عبد الرحمن.....، ج 4، ص 268، رقم 5869)

27- امام حافظ جلال الدین عبدالرحمان بن ابوبکر سیوطی شافعی (متوفی 911ھ)

(تاریخ الخلفاء، ذکر معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ص 152)

28- امام حافظ احمد بن محمد شافعی مکی (ابن حجر عسقلانی) (متوفی 979ھ)

(الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدع و الزندقة، ص 310)

29- امام ربانی، مجدد الف ثانی، شیخ بدر الدین ابوالبرکات احمد بن عبدالاحد سرہندی

حنفی (متوفی 1034ھ)

(مکتوبات، مکتوب دوصد و پنجاہ و یکم (251)، دفتر اول، حصہ چہارم، ج 17، ص 58)

30- علامہ نور الدین ابوالفرج علی بن ابراہیم حلبی (متوفی 1044ھ)

(انسان العیون فی سیرة الامین و المامون (سیرة حلبیة)،

باب فتح مکة شرفها اللہ تعالیٰ، ج 3، ص 136)

31- علامہ عبدالملک بن حسین عَصَامِی مکی (متوفی 1111ھ)

(سمط النجوم العوالی فی انباء الاوائل و التوالی، ذکر مناقبہ.....، ج 3، ص 155)

32- الشاہ ابو محمد قطب الدین احمد بن عبدالرحیم (شاہ ولی اللہ) دہلوی فاروقی (متوفی

1176ھ)

(ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، مقصد اول، فصل پنجم، تنبیہ سوم، ج 1، ص 571، 572)

33- عارف باللہ علامہ عبدالعزیز بن احمد پراوینی (متوفی 1239ھ)

(الناہیة عن طعن امیر المؤمنین معاویة رضی اللہ عنہ،

فصل فی فضائل معاویة رضی اللہ عنہ، ص 15)

رُوَاة

اس حدیث پاک کی جو سند مذکور ہوئی اس میں پہلے راوی ہیں:

1- امام ابو مسہر عبدالاعلیٰ بن مسہر دمشقی (متوفی 218ھ)

ان کے متعلق امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ ملک شام کے بزرگ اور فقیہ تھے۔

(سیر اعلام النبلاء، ج 10، ص 228، رقم 60)

امام ابن معین، ابو حاتم، عجل اور حاکم کہتے ہیں: یہ ثقہ تھے۔ اسی طرح خلیل کا کہنا

ہے کہ یہ ثقہ، حافظ اور متفق علیہ امام تھے۔ ابن وضاح انھیں ثقہ فاضل کہتے تھے۔

(انظر: تہذیب التہذیب، من اسمہ عبد الاعلیٰ، ج 3، ص 726، 727، رقم 4355)

2- دوسرے راوی ہیں: امام القدوة، ابو محمد سعید بن عبدالعزیز تنوخی (متوفی 167ھ)

آپ کی ولادت سیدنا سہل بن سعد اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما کی حیات مبارکہ میں

ہوئی۔ آپ دمشق کے مفتی تھے۔ (سیر اعلام النبلاء، ج 8، ص 32، رقم 5)

امام ابن حبان فرماتے ہیں: سعید بن عبدالعزیز ملک شام کے فقہاء، عباد اور دمشق

کے حفاظ و زہاد میں سے ہیں۔

(مشاہیر علماء الامصار و اعلام فقہاء الاقطار، ص 103، رقم 1466)

حافظ ابن سعد کہتے ہیں: ان شاء اللہ یہ ثقہ ہیں۔

(الطبقات الكبرى، ج 7، ص 324، رقم 3913)

امام ابن معین اور عجلی کہتے ہیں: یہ ثقہ تھے۔

(انظر: تهذيب التهذيب، من اسمه سعيد، ج 2، ص 667، رقم 2774)

امام نسائی کہتے ہیں: یہ ثقہ ثابت تھے۔ [1] (ایضاً)

بلکہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن احمد کہتے ہیں کہ

میں نے اپنے والد گرامی (سیدنا احمد) کو فرماتے سنا:

ليس في الشام رجل اصح حديثاً من سعيد بن عبدالعزيز۔

(مسند احمد، حدیث حبيب بن مسلمہ فہری، ج 29، ص 12، رقم

17469، حدیث نعیم بن ہمار الغطفانی، ج 37، ص 144، رقم 22475)

3- تیسرے راوی: امام القدوة ابو شعیب ربیعہ بن یزید ایادی (متوفی 121 یا

123ھ) ہیں۔

ان کے متعلق امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں: یہ ثقہ عابد تھے۔

(تقریب التهذيب، ص 148، رقم 1919)

امام نسائی، عجلی، ابن عمار، یعقوب بن شیبہ اور ابن سعد نے بھی انہیں ثقہ کہا ہے۔

(انظر: تهذيب التهذيب، من اسمه ربیعة، ج 2، ص 424، رقم 2258)

کیا یہ صحابی نہیں؟؟

4- اس حدیث پاک کے چوتھے راوی، جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک

سے یہ دعائیہ کلمات (اللہم اجعلہ ہادیاً..... الخ) سنے، حضرت عبد الرحمن

بن ابی عمیرہ مزنی ہیں۔ [2]

آپ اور آپ کے بھائی سیدنا محمد شرف صحابیت سے مشرف ہیں۔ رضی اللہ عنہما

(الجرح و التعذیل، ج 8، ص 54)

[1] ثقہ ثابت کا درجہ ”ثقہ“ سے بلند ہوتا ہے۔ (لقدان عفی عنہ) [2] آئندہ صفحہ پر ملاحظہ کریں!

سیدنا محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت پر اختلاف تو نظر سے نہیں گزرا، البتہ سیدنا عبدالرحمن کے صحابی ہونے میں معدودے چند علما میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر وہ قابل اعتنا نہیں؛ حفاظ و محدثین عظام، فقہاء و علمائے کرام رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد کا آپ کی صحابیت پر ہی اتفاق ہے، اور امام ذہبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اصح (یعنی صحیح ترین) یہی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔

(انظر: تجرید اسماء الصحابة للذهبی، ج 1، ص 353، رقم 3742)

علاوہ ازیں ان بزرگوں نے اپنی کتب میں آپ رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا بیان کیا ہے:

- 1- حافظ ابن سعد (متوفی 230ھ) (طبقات الكبرى، ج 7، ص 292)
- 2- امام ترقی (متوفی 267ھ) (حدیث عباس ترقی، رقم 44)
- 3- امام ترمذی (متوفی 279ھ) (ترمذی، ج 5، ص 687، رقم 3842)
- 4- امام ابن ابی عاصم (متوفی 287ھ) (السنة، ج 1، ص 123، رقم 282)
- 5- امام بغوی (متوفی 317ھ) (معجم الصحابة، ج 4، ص 489)
- 6- حافظ ابن قانع (متوفی 351ھ) (معجم الصحابة، ج 2، ص 146، رقم 621)
- 7- امام آجری (متوفی 360ھ)
- (الشریعة، ج 5، ص 2430، رقم 1915، ص 2437، رقم 1916)
- 8- امام طبرانی (متوفی 360ھ) (مسند الشامیہ، ج 1، ص 190، رقم 333)
- 9- اُستاذ الحدیث ابی الشیخ اصہبانی (متوفی 369ھ) (طبقات المحدثین)

سابقہ صفحہ کا حاشیہ: [2] عمیرہ کے عین پرزبر اور میم کے نیچے زیر ہے۔ یعنی: "عمیرہ"

(اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابة، ج 4، ص 81، رقم 4762)

مرقاۃ المفاتیح، شرح مشکوٰۃ المصابیح، ج 8، ص 3314)

اور مزنی کے میم پر پیش اور "ز" پر زیر ہے۔ یعنی: مؤزنی۔

(المغنی فی ضبط اسماء الرجال و معرفۃ کنی الرواۃ و

القابہم و انسابہم، حرف المیم، التنب، ص 247) (لقمان عفی عنہ)

10- حافظ ابو نعیم (متوفی 430ھ)

(تاریخ اصبهان، ج 1، ص 221- معرفة الصحابة، ج 4، ص 1836)

11- خطیب بغدادی (متوفی 463ھ)

(تالی تلخیص المتشابه، ج 2، ص 539- غنیة الملتبس ایضاح الملتبس، ص 8، رقم 4)

12- حافظ ابن عساکر (متوفی 571ھ)

(تاریخ دمشق، ج 59، ص 83، ج 35، ص 230, 231, 232)

13- حافظ ابن خراط (متوفی 581ھ) (الاحکام الشرعية الكبرى، ج 4، ص 428)

14- امام نووی (متوفی 676ھ) (تهذيب الاسماء و اللغات، ج 2، ص 103)

15- امام ذہبی (متوفی 748ھ)

(معجم الشيوخ الكبير، ج 1، ص 155- تجريد اسماء الصحابة، ج 1، ص 353،

رقم 3742- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، ج 1، ص 638، رقم

3281- سير اعلام النبلاء، ج 3، ص 124- تاريخ اسلام، ج 4، ص 309)

16- علامہ صفدی (متوفی 764ھ) (الوافی بالوفیات، ج 18، ص 124)

17- حافظ ابن حجر مکی (متوفی 979ھ) (الصواعق المحرقة، ص 310)

18- شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (متوفی 1176ھ)

(ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، ج 1، ص 571)

19- علامہ پرہاروی (متوفی 1239ھ)

(الناہیة عن طعن امیر المؤمنین معاویة رضی اللہ عنہ، ص 15) وغیرہ

غور طلب بات

امام ابن حجر مکی نور اللہ مرقدہ نبی مکرم ﷺ کی مذکورہ دُعا (اے اللہ! معاویہ کو ہادی، مہدی بنا..... الخ) کے بارے میں فرماتے ہیں:

فتامل هذا الدعاء من الصادق المصدوق و ان ادعيتہ لامته

لا سيما اصحابه مقبولة غير مردودة تعلم ان اللہ سبحانہ

استجاب لرسول الله ﷺ بهذا الدعاء لمعاوية فجعله
 هاديا للناس مهديا في نفسه و من جمع الله له بين هاتين
 المرتبتين كيف يتخيل فيه ما تقوله عليه المبطلون و وصمه
 به المعاندون معاذ الله لا يدعو رسول الله ﷺ هذا
 الدعاء الجامع لمعالى الدنيا و الآخرة المانع لكل نقص
 نسبتہ اليه الطائفة المارقة الفاجرة، الا لمن علم عليه وسلم انه
 اهل لذلك حقيق بما هنالك فان قلت هذان اللفظان اعنى
 هاديا مهديا مترادفان او متلازمان فلم جمع النبي ﷺ
 بينهما؟ قلت: ليس بينهما ترادف و لا تلازم، لان الانسان
 قد يكون مهديا في نفسه و لا يهتدى غيره به، و هذه طريق
 من آثر من العارفين السياحة و الخلوة، و قد يهدى غيره و
 لا يكون مهديا و هي طريقة كثيرين من القصاص الذين
 اصلحوا ما بينهم و بين الناس و افسدوا ما بينهم و بين الله،
 و قد شاهدت من هؤلاء جماعة لم يبال الله بهم في اى واد
 هلكوا، و قد قال عليه وسلم: ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل
 الفاجر۔ فلاجل هذا طلب عليه وسلم لمعاوية حيازة هاتين
 المرتبتين الجليلتين حتى يكون مهديا في نفسه هاديا للناس۔

”صادق و مصدوق ﷺ کی اس دعا پر غور کرو! اور (اس پر بھی غور کرو کہ)
 آپ ﷺ کی وہ دعائیں جو آپ نے اپنی امت، بالخصوص اپنے اصحاب
 کے لیے خدا کے حضور مانگیں مقبول ہوئیں ان میں سے کوئی بھی رو نہیں کی
 گئی، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ دعا جو حضور نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ

کے لیے کی، یہ بھی مقبول ہوئی، اور اللہ جل جلالہ نے آپ ﷺ کو لوگوں کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیا اور (غور کرو کہ) جس شخص میں اللہ رب العزت نے یہ دونوں صفتیں جمع فرمادی ہوں اس کی بابت معاذ اللہ وہ باتیں کیوں کر خیال کی جاسکتی ہیں جو باطل پرست معاند بکتے ہیں! (ظاہر ہے کہ) اللہ کے پیارے رسول ﷺ ایسی جامع دعا جو دنیا و آخرت کے مراتب کو شامل ہو اور ہر نقص سے پاک کرنے والی ہو اسی کے لیے ہی کریں گے جسے آپ نے اس کا اہل سمجھا ہوگا۔

ازالہ اشکال: اور اگر تم کہو کہ 'ہادیا' (ہدایت دینے والا) اور 'مہدیا' (ہدایت یافتہ) مترادف یا متلازم ہیں، پھر نبی کریم ﷺ نے یہ دونوں الفاظ کیوں فرمائے؟

تو میں کہوں گا کہ ان دونوں لفظوں میں ترادف ہے نہ تلازم؛ کیوں کہ انسان کبھی خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے مگر دوسروں کو اس سے ہدایت نہیں ملتی، جیسا کہ ان عارفین کا حال ہے جنہوں نے سیاحت اور خلوت اختیار کر لی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے تو اس سے ہدایت پاتے ہیں مگر خود ہدایت یافتہ نہیں ہوتا اور یہ روش اکثر قصاص (قصے کہانیاں سنانے والے مقررین، خطبا) کی ہے کہ جنہوں نے بندوں کے معاملات تو درست رکھے مگر خدا کے ساتھ معاملہ بگاڑ دیا؛ میں (ابن حجر مکی) نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، ایسے لوگ جس جنگل میں چاہیں ہلاک ہو جائیں اللہ عزوجل کو ان کی کوئی پروا نہیں۔ اور رحمت عالم ﷺ کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس دین کی مدد بدکار آدمی سے بھی کر دیتا ہے۔

(مسلم، باب غلط تحریم قتل الانسان نفسه...، ج 1، ص 105، رقم 178)

- بخاری، باب العمل بالخوانیم، ج 8، ص 124، رقم 6606 وغیرہما)

اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ان دونوں مراتب جلیلہ کی طلب فرمائی تاکہ آپ خود ہدایت یافتہ ہونے کے ساتھ لوگوں کو بھی ہدایت دیں۔“

(تطهير الجنان و اللسان عن الخطور و التفوه بثلث سيدنا معاوية بن ابي سفيان - مع الصواعق المحرقة، الفصل الثاني، في فضائله و مناقبه و خصوصياته و علومه و اجتهاده.....، ص 388)

بلاشبہہ مقبول دعا

امام کبیر شرف الدین حسین بن عبداللہ طیبی (متوفی 743ھ) اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں:

و لا ارتياب ان دعاء النبي عليه وسلم مستجاب فمن كان حاله هذا كيف يرتاب في حقه۔

”اس میں کوئی شک نہیں، بلاشبہہ (سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ پس جس کا یہ حال ہو (کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دینے والا اور خود ہدایت پر قائم رہنے والا بنا دیا ہو) تو اس کے بارے میں کیسے شک کیا جاسکتا ہے۔“

(شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح المعروف بالکاشف عن حقائق

السنن، باب جامع المناقب، ج 12، ص 3948، رقم 6244)

یہی بات ملا علی قاری حنفی رضی اللہ عنہ نے لکھی ہے۔

(انظر: مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، باب جامع

المناقب، الفصل الثالث، ج 9، ص 4022، رقم 6244)

اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا

چلی ناز سے جب دُعاے محمد

اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا

و لھن بن کے پلٹی دُعاے محمد

دوسری التجاہہ درگاہِ خدا

مذکورہ سند کے ساتھ نبی اکرم ﷺ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں کی گئی یہ دُعا بھی منقول ہے:

اللّٰهُمَّ عَلِّمْ مَعَاوِيَةَ الْحِسَابَ وَ قَهْ الْعَذَابَ۔

”اے اللہ! معاویہ کو حساب سکھا اور عذاب سے بچا!“

(التاریخ الكبير، معاویة بن ابی سفیان بن حرب.....، ج 7، ص 326، رقم 1405)

بہ وقت سحر کیا مانگا؟

سیدنا عز بن باض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے یوں بھی مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے رمضان شریف کے مہینہ میں مجھے سحری کی دعوت دی تو میں نے آپ سے سنا:

اللّٰهُمَّ عَلِّمْ مَعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَ الْحِسَابَ وَ قَهْ الْعَذَابَ۔

”اے میرے اللہ! معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے بچا!“

(مسند احمد، حدیث العرباض بن ساریہ.....، ج 28، ص 383، رقم 17152-

فضائل الصحابة لاحمد، فضائل معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ج 2، ص

913، رقم 1748- السنة لابی بکر، ذکر ابی عبد الرحمن معاویة.....، ج 2، ص 449،

450 رقم 696- صحیح ابن خزيمة، باب ذکر الدلیل ان السحور.....، ج 3، ص 214،

رقم 1938 وغیرہا کتب الاحادیث)

وقتِ سحر، سبحان اللہ!!

یاد رہے کہ سحری کا وقت وہ بابرکت وقت ہے جس کی عظمت بیان کرتے ہوئے

حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے اس سوال: ای اللیل افضل؟

”رات کا کون سا وقت افضل ہے؟“ کے جواب میں عرض کی تھی:

ما ادری غیر انی اعلم ان العرش یهتز من السحر۔

”میں یہ تو نہیں جانتا کہ کون سا وقت افضل ہے البتہ اتنا جانتا ہوں کہ بہ وقتِ سحر عرش ملنے لگتا ہے۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ، کلام داود علیہ السلام، ج 7، ص 68، رقم 34251-

الزهد لاحمد بن حنبل، زهد داود علیہ السلام، ص 60، رقم 365 وغیرہ)

اور یہی وہ وقت ہے جب پروردگارِ عالم ندا کرتا ہے:

من یدعونی فاستجب له، من یسألنی فاعطیه۔

”کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے

جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں۔“

(صحیح بخاری، کتاب التہجد، باب الدعاء فی الصلاة

من آخر اللیل، ج 2، ص 53، رقم 1145، وغیرہ)

تو ایسے بابرکت و قبولیت کے وقت اللہ کے پیارے حبیب ﷺ نے جب یہ التجا

کی ہوگی کہ اے میرے اللہ! میرے معاویہ کو عذاب سے بچا! تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اس

وقت ہر خاص و عام کی دعا قبول فرمانے والے نے اپنے محبوب کی دعا قبول نہ کی ہو۔

شہروں پر قبضہ

علاوہ ازیں سیدنا مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے مالک کی

بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں:

اللہم علم معاویۃ الكتاب و مکن له فی البلاد و قہ العذاب۔

”اے میرے اللہ! معاویہ کو کتاب کا علم، شہروں میں حکومت اور عذاب

سے امن دے!“

(الشریعة، باب ذکر دعاء النبی المعاویۃ، ج 5،

ص 2438، رقم 1918 وغیرہ کتب الحدیث)

صرف یہی نہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور عظمت و رفعت پر دال ان کے

علاوہ بھی فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ کتب احادیث و عقائد میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

آثار صحابہ

بہترین قاضی

رسول اللہ ﷺ کے بے مثال ماموں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا:
 هذا خالي فليروني امرء خاله۔

”یہ میرے ماموں ہیں ان جیسا کسی کا ماموں ہو تو مجھے دکھائے۔“ [1]

حضرت سیدنا ابواسحاق سعد بن ابی وقاص مالک رضی اللہ عنہ (متوفی 55ھ) فرماتے تھے:

ما رایت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا
 الباب۔ یعنی معاویہ۔

”میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی شخص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے
 بہتر حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا۔“

(تاریخ دمشق لابن عساکر، معاویہ بن صخر ابی سفیان.....، ج 59، ص 161-
 تاریخ اسلام للذہبی، حرف المیم، ج 4، ص 313- البدایة و النہایة، ترجمة معاویة
 و ذکر شیء من ایامہ.....، ج 8، ص 142)

صاحب نبی

رسول اللہ ﷺ کے عم زاون جنہیں آپ نے گلے لگا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی تھی:

اللہم علمہ الحکمة۔

[1] سیدنا سعد کے دادا اہیب بن مناف رسول اللہ ﷺ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے چچا تھے (اس اعتبار سے آپ

حضور ﷺ کے ماموں ہوئے)۔ (رجال حول الرسول، ص 82) (لقمان عفی عنہ)

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ، ج 5، ص 28،

رقم 3764- السنن الکبریٰ، باب الوتر بركة واحدة.....، ج 3، ص 40، رقم 4797)

”اے اللہ! اسے حکمت سکھا دے!“

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ (متوفی 68ھ) فرماتے تھے:
دعہ فانہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہ کہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔“

سمجھدار

آپ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے تھے:

انہ فقیہ۔ ”بے شک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فقیہ ہیں۔“

(ایضاً، رقم 3765- ایضاً، ج 3، ص 40، رقم 4798۔ الاوسط فی السنن و الاجماع و الاختلاف، ذکر اباحۃ الوتر بسبع رکعات.....، ج 5، ص 179، رقم 2642)

زیادہ علم والے

امام المسلمین امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی مطلیبی مکی (متوفی 204ھ) نے
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمان بھی نقل کیا
ہے کہ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا:

اصاب ای بنی لیس احد منا اعلم من معاویة۔

”اے میرے بیٹے! حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کیا درست کیا، ان سے

زیادہ علم والا ہم میں کوئی نہیں۔“

(مسند الشافعی، و من کتاب الصوم و الصلاة و العیدین.....، ص 86۔ تفسیر الامام
الشافعی، تحت سورة المزمل، ج 3، ص 1408- الام، باب الحکم فیمن دخل فی
صلاة او صوم.....، ج 1، ص 330)

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان حافظ عبدالرزاق صنعانی (متوفی 211ھ) اور
امام بیہقی (متوفی 458ھ) نے بھی نقل کیا ہے۔

(انظر: المصنف، باب کم الوتر؟، ج 3، ص 20- السنن الکبریٰ، باب الوتر برکعة واحدة)

..... ج 3، ص 39، رقم 4794 - معرفة السنن و الآثار، الوتر، ج 4، ص 60، رقم 5469

بہترین حاکم

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے:

ما رايت رجلا كان اخلق للملك من معاوية۔

”میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حکومت کے لیے موزوں کسی کو

نہیں دیکھا۔“

(التاریخ الكبير، معاوية بن ابی سفیان.....، ج 7، ص 326، رقم 1405۔ الجزء

المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الرابعة من الصحابة ممن اسلم عند فتح مكة و

ما بعد ذلك)، معاوية بن ابی سفیان بن حرب.....، ص 121، رقم 46 - معجم

الصحابة للبخاری، ابو عبد الرحمن معاوية بن ابی سفیان، ج 5، ص 373)

بے مثال سردار

وہ پیارے اور نیک صحابی جن کی نیکی کی گواہی دیتے ہوئے اُمّ المؤمنین سیدہ

حفصہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

ان اخاك رجل صالح۔

”تیرا بھائی نیک آدمی ہے۔“

اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتیں: ان سے بڑھ کر نقوشِ نبوی کا تتبع کوئی نہیں۔

حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (متوفی 73 یا 74 ھ) فرماتے تھے:

ما رايت احدا بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاوية۔

”میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا سردار کوئی

نہیں دیکھا۔“ [1]

[1] امام احمد بن حنبل سے ”اسود“ کا معنی ”اسخی“ (بہت زیادہ عطا فرمانے والے) بھی مروی ہے۔

(انظر: السنة، ج 2، ص 441، رقم 678) (نفسان عفی عنہ)

(الاحاد و المثنى، و من ذكر معاوية بن ابى سفيان.....، ج 1، ص 379، رقم 516-
 المعجم الكبير، المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عمر، ج 12، ص 387، رقم
 13432- شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة، سياق ما روى عن النبي ﷺ
 فى فضائل ابى عبد الرحمن.....، ج 8، ص 1529، 1530، رقم 2781)

برودبار

شیخ الاسلام امام ابو بکر محمد بن سیرین انصاری تابعی (متوفی 110ھ) کہتے ہیں
 کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:
 کان معاوية احلم الناس۔

”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم و بردبار تھے۔“

(السنة، ذکر ابى عبد الرحمن معاوية بن ابى سفيان.....، ج 2، ص 443، رقم 681)

أمت كاهوى

نبی کریم ﷺ کے عابد و زاہد صحابی جن کے بارے میں امیر المومنین سیدنا فاروق
 اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: کاش! میرے پاس ان جیسے لوگ ہوتے جن سے میں
 مسلمانوں کے مسائل میں مدد لیتا۔

(المعجم الكبير، اخبار عمير بن سعد، ج 17، ص 51)

وہ سیدنا عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لا تذكروا معاوية الا بخير، فاني سمعت رسول الله ﷺ
 يقول: اللهم اهد به۔

”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خیر سے ہی یاد کیا کرو؛ میں نے اللہ کے پیارے رسول
 ﷺ سے سنا ہے: اے اللہ! معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما!“

(سنن ترمذی، باب مناقب معاوية بن ابى سفيان)

رضی اللہ عنہ، ج 5، ص 687، رقم 3843)

ارشاداتِ تابعین

صاحبِ حلم و وقار

حضرت ابوالعلا قبیصہ بن جابر تابعی (متوفی 69ھ) فرماتے تھے:

فما رایت رجلا اثقل حلما و لا ابطا جهلا و لا ابعده اناة منه۔

”میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑا حلیم، جہالت سے بہت زیادہ دُور

اور بڑا باوقار آدمی کوئی نہیں دیکھا۔“

(المعرفة و التاريخ، باب فی عمر بن خطاب.....، ج 1، ص 458- تاریخ دمشق،

معاویة بن صخر ابی سفیان.....، ج 59، ص 178- سیر اعلام النبلاء، معاویة بن ابی

سفیان صخر بن حرب الاموی، ج 3، ص 153)

بے مثل حکم ران

امام مظلوم سیدنا عثمان غنی کے زمانہ مبارک میں وصال فرمانے والے ثقہ تابعی،

حضرت ابواسحاق کعب بن ماتع حمیری (کعب احبار) فرمایا کرتے:

لن یملك احد من هذه الامة ما ملک معاویة۔

”جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم رانی کی ہے اس اُمت میں کسی

نے نہیں کی۔“

(الطبقات الکبریٰ، معاویة بن ابی سفیان.....، ص 119، رقم 43- تاریخ دمشق،

معاویة بن صخر.....، ج 59، ص 176- سیر اعلام النبلاء، معاویة بن ابی سفیان

صخر بن حرب الاموی، ج 3، ص 153)

امام زہری کو جواب

مدینہ طیبہ کے بہت بڑے عالم، جنہوں نے سیدنا عمر فاروق کی زیارت کی، سیدنا

عثمان، سیدنا علی اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کا کلام سنا۔ حضرت ابو محمد سعید بن مسیب قرشی مخزومی (متوفی بعد 90ھ) سے جب امام زہری نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

اسمع يا زهرى من مات محبا لابی بكر و عمر و عثمان و علی و
شهد للعشرة بالجنة و ترحم علی معاوية، كان حقیقا علی
اللہ ان لا يناقشه الحساب۔

”اے زہری! سنو! جو شخص سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم کی محبت میں مرے، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کے جنتی ہونے کی گواہی دے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کرے تو اللہ پر حق ہے کہ اس کے حساب میں سختی نہ فرمائے۔“

(تاریخ دمشق، معاویہ بن صخر.....، ج 59، ص 207-البدایة و النہایة،
ترجمة معاوية و ذکر شیء من ایامہ.....، ج 8، ص 148 وغیرہما)

اکثر لوگ کہیں.....

جلیل القدر صحابہ و تابعین کے شاگرد، عظیم المرتبت ائمہ کے استاذ، ثقہ امام، قدوة
المفسرین و المحدثین، حافظ الاصل، حضرت ابوالخطاب قتادہ بن دعامہ بصری (متوفی
100ھ) فرماتے تھے:

لو اصبحتم فی مثل عمل معاوية لقال اکثرکم: هذا
المهدی۔

”اگر تم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے کام کرنے لگو تو اکثر لوگ پکاراٹھیں: یہ
مہدی ہے۔“

(السنة، ذکر ابی عبد الرحمان معاوية.....، ج 2، ص 437، رقم 668)

جہنمی کون؟

حضرت قتادہ یہ بھی فرماتے: میں نے (کبیر الشان و رفیع الذکر امام، حضرت ابو سعید حسن بن ابوالحسن یسار) حسن بصری تابعی (متوفی 110ھ) سے کہا:

یا ابا سعید! ان ههنا ناسا يشهدون على معاوية انه من اهل النار۔

”اے ابو سعید! یہاں کچھ لوگ ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جہنمی کہتے

ہیں۔“ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

لعنهم الله و ما يدريهم من في النار۔

”ان پر اللہ کی لعنت ہو انھیں کیا خبر جہنم میں کون ہے۔“

(الاستيعاب في معرفة الاصحاب، معاوية بن ابی سفيان، ص 679، رقم 1448)

امام حسن بصری کا اسی مفہوم کا فرمان امام بغوی (متوفی 317ھ)، امام آجری

(متوفی 360ھ)، حافظ ابن عساکر (متوفی 571ھ) اور علامہ ابن منظور (متوفی

711ھ) نے بھی اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔

(انظر: معجم الصحابة، ابو عبد الرحمن معاوية بن ابی سفيان، ج 5، ص 368، رقم

2193- الشريعة، باب ذکر تواضع معاوية رحمه الله في خلافته، ج 5، ص 2467،

رقم 1957- تاريخ دمشق، معاوية بن صخر ابی سفيان.....، ج 59، ص 206-

مختصر تاريخ دمشق، معاوية بن صخر ابی سفيان.....، ج 25، ص 73)

یہ مہدی ہیں

ثقف و حجة امام ابوالحجاج مجاہد بن زبیر کی تابعی (متوفی 104ھ) [1] فرماتے ہیں:

لو رايتم معاوية لقلتم: هذا المهدي۔

”اگر تم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو کہتے: یہ مہدی ہیں۔“

(السنة ذكر ابي عبد الرحمن معاوية.....، ج 2، ص 438، رقم

669- الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي، ص 92، رقم 92)

تمھارا کیا حال ہوتا

اکابر محدثین، مجتہدین اور فقہاء کے اُستاد، امام ابو محمد سلیمان بن مہران (اعمش) اسدی کوفی تابعی (متوفی 147 یا 148ھ) کے سامنے ایک دفعہ لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور آپ کے عدل و انصاف کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا:

فكيف لو ادر كتم معاوية-

”تم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے عدل کی بات کرتے ہو (اگر تم

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو تمھارا کیا حال ہوتا۔“

(چوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا حلم و بردباری لوگوں میں بہت مشہور تھا اس لیے)

انھوں نے پوچھا:

يا ابا محمد يعني في حلمه؟

”اے ابو محمد کیا آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حلم کی بات کر رہے ہیں؟“

آپ نے فرمایا:

لا والله الا بل في عدله-

”نہیں، اللہ کی قسم بلکہ آپ کے عدل و انصاف کی بات کر رہا ہوں۔“

(یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا حلم ہی نہیں، عدل و انصاف بھی حضرت عمر بن

عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے)

(السنة، ذكر ابي عبد الرحمن معاوية.....، ج 2، ص 437، رقم 667- المنتقى من

منهاج الاعتدال في نقد كلام اهل الرفض و الاعتزال للذهبي، الفصل الثالث في امامة

علي رضي الله عنه، ص 388)

[1] امام مجاہد کے سن وفات کے متعلق چار اقوال ہیں: 101، 102، 103 یا 104ھ۔ واللہ اعلم

اقوالِ تبع تابعین

وہ خاک!!

ولی باکرامت، جامع العلوم، حضرت امام ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مبارک تمیمی (متوفی 181ھ) فرماتے ہیں:

تراب دخل فی انف معاویة رحمہ اللہ مع رسول اللہ اخیر او
افضل من عمر بن عبد العزیز۔

”جو مٹی اللہ کے پیارے رسول ﷺ کی معیت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے
ناک میں داخل ہوئی وہ حضرت عمر بن عبد العزیز سے بہتر یا افضل ہے۔“

(الشریعة، باب ذکر تواضع معاویة.....، ج 5، ص 2466، رقم 1955)

حضرت ابن مبارک کا اسی مفہوم کا فرمان ان کتب میں بھی ہے۔

(تاریخ دمشق، معاویة بن صخر.....، ج 59، ص 207۔ البدایة و

النهاية، ترجمة معاویة و ذکر شیء من ایامہ.....، ج 8، ص 148)

ہزار درجہ افضل

علامہ ابو العباس احمد بن محمد (ابن خلکان) (متوفی 681ھ) نے لکھا ہے کہ
حضرت عبد اللہ بن مبارک سے جب سوال ہوا کہ سیدنا معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ اور عمر
بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

واللہ ان الغبار الذی دخل فی انف معاویة مع رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بالف مرة۔

”اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ کی معیت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک میں داخل ہونے والا گرد و غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہزار درجہ افضل ہے۔“ (وفیات الاعیان، عبد اللہ بن مبارک، ج 3، ص 33)

امام ابن مبارک کا یہ فرمان امام شہاب الدین احمد بن یحییٰ قرشی عدوی (متوفی 759ھ) نے بھی نقل کیا ہے۔

(انظر: مسالك الابصار في ممالك الامصار، عبد الله بن مبارك، ج 5، ص 665، رقم 152)

عظیم شرف

امام شہاب الدین احمد بن محمد بن علی بن حجر کی شافعی (متوفی 974ھ) لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے فرمایا:

والله للغبار الذي دخل انف فرس معاوية مع رسول الله
عليه وسلم خير من مائة واحد مثل ابن عبدالعزیز۔

”اللہ کی قسم (حضرت معاویہ کجا) رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جو گرد و غبار آپ کے گھوڑے کی ناک میں پڑا وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جیسی سو ہستیوں سے بہتر ہے۔“

(الفتاویٰ الحدیثیة، مطلب فی قول ابن المبارک و اللہ للغبار الذی.....، ص 401)

حضرت ابن مبارک کا یہ قول مفسر شہیر علامہ محمود بن عبد اللہ حسینی آلوسی (متوفی 1207ھ) اور فقیہ و محدث علامہ علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) نے بھی نقل کیا ہے۔

(انظر: روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، سورة الجمعة، ج 14، ص 289 شرح الشفاء، فصل و من توفیره و بره توفیر اصحابہ علیہ الصلوٰة و

امام ابن مبارک کے اسی فرمان کے تحت حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

یرید بذلك ان شرف الصحبة و الرؤیة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
و حلول نظرة الکریم لا یعاد له عمل و لا یوازیه شرف۔

”سیدنا عبد اللہ بن مبارک کی مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف اور آپ کی زیارت و نظر کرم ایسی نعمتیں ہیں جن کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان کے مساوی کوئی شرف ہو سکتا ہے۔“

(الفتاویٰ الحدیثیة، ص 401، 402)

اُن کا مقتدی، اللہ اللہ!!

محمد بن یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مبارک سے جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بازے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

ما اقول فی رجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ، فقال معاویة من خلفه ربنا و لك الحمد۔

”میں اس ہستی کے بازے میں کیا کہوں! جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ (اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی) کہتے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کہتے: ربنا و لك الحمد۔ (اے ہمارے پروردگار! سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں)“

(تاریخ دمشق، معاویة بن صخر.....، ج 59، ص 207- مختصر تاریخ دمشق، معاویة بن صخر.....، ج 25، ص 74- البدایة و النہایة، ترجمة معاویة و ذکر شیء من ایامہ.....، ج 8، ص 148)

صرف اُن کی خاطر!

صاحب کرامت ولی اللہ، جن کی قبر مبارک سے بھی لا اِلهَ اِلا اللہ کی آواز آتی

تھی۔ [1] شیخ الاسلام، امام الحدیث، حافظ ابو مسعود معافی بن عمران ازدی (متوفی 185 یا 186ھ) سے جب کسی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے اس پر سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

لا يقاس باصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احد معاوية صاحبه و
ضهره و كاتبه و امينه على وحى الله۔ و قال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم دعوا لى اصحابى و اصهارى فمن سبهم فعليه لعنة
الله و الملائكة و الناس اجمعين۔

”کسی (غیر صحابی) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا!
حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے صحابی، رشتہ دار (برادرِ نسبتی)
کاتب اور وحیِ الہی پر آپ کے امین ہیں۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
ہے: میرے صحابہ اور رشتہ داروں کو میری خاطر چھوڑ دو جس نے انھیں
سب کیا اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت۔“

(شرح اصول اعتقاد اہل السنة و الجماعة، سیاق ما روى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی فضائل ابی عبد الرحمن معاویہ.....، ج 8، ص 1531، رقم 2785-الاباطیل و المناکیر و الصحاح و المشاہیر، باب فی فضائل طلحة و الزبیر.....، ص 112- تاریخ بغداد، معاویہ بن ابی سفیان، ج 1، ص 577- تاریخ دمشق، معاویہ بن صخر.....، ج 59، ص 208)

چھ سو سے بھی بہتر

امام ابو بکر احمد بن محمد الخلال حنبلی (متوفی 311ھ) ثقہ راویوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معافی بن عمران رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ افضل

[1] انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى و القبور، باب زيارة القبور و رؤية الموتى لزوارهم، ص 184، رقم 905

ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا:

كان معاوية افضل من ست مائة مثل عمر بن عبد العزيز
 ”(ایک عمر بن عبدالعزیز کیا) سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز
 جیسے چھ سو بزرگوں سے افضل ہیں۔“

(السنة، ذکر ابی عبد الرحمن معاویہ.....، ج 2، ص 435، رقم 664)

پردہ اصحاب

بزرگ تبع تابعین کے شاگرد، بقیۃ المشائخ، ثقہ امام، حافظ ابو توبہ ربیع بن نافع
 حلبی (متوفی 241ھ) فرماتے ہیں:

معاویة بن ابی سفیان ستر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا
 كشف الرجل السترا جتري على ما وراءه۔

”سیدنا معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ رسول کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پردہ
 ہیں، جب کوئی شخص پردہ اٹھاتا ہے تو جو کچھ اس کے پیچھے ہے اس پر بھی
 جرات کرتا ہے۔“

(یعنی جو بد نصیب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ
 وہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی زبانِ طعن دراز کرتا ہے)

(تاریخ بغداد، معاویہ بن ابی سفیان، ج 1، ص 577، تاریخ دمشق، معاویہ بن صخر
 ابی سفیان.....، ج 59، ص 209- البدایة و النہایة، ترجمة معاویة و ذکر شیء من
 ایامہ.....، ج 8، ص 148)



علمائے احناف کا نظریہ

بال اور خون

شمس الائمہ، امام، فقیہ ابو بکر محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) نے حضرت ابو بکر محمد بن فضل رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ درج کیا ہے کہ

كان ينال منه في الابتداء، فرأى في منامه كأن شعرة تدلت من لسانه الى موضع قدمه فهو يطؤها و يتالم من ذلك و يقطر الدم من لسانه۔

”آپ ابتداءً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی عیب جوئی کرتے تھے، ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میری زبان سے بال نکل کر پاؤں تک آ گیا ہے جسے روند رہا ہوں جس کی وجہ سے اذیت ہو رہی ہے اور زبان سے خون جاری ہے۔“

فسال المعبر عن ذلك۔

”تو انھوں نے معبر (خواب کی تعبیر بتانے والے) سے اس کی تعبیر پوچھی۔“

اس نے کہا:

انك تنال من واحد من كبار الصحابة رضی اللہ عنہ، فایاك، ثم ایاك۔

”آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ میں سے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی عیب جوئی کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں اور پرہیز کریں! (یہ اسی کا ہی وبال ہے)“ (المبسوط للسرخسی، کتاب الاکراه، ج 24، ص 47)

عادل، فاضل

بے مثل عالم، عظیم مفسر، اصولی، متکلم، مؤرخ اور شارح و محدث علامہ ابوالحسن نورالدین علی بن سلطان القاری حنفی (متوفی 1014ھ) لکھتے ہیں:

معاویة؛ فهو من العدول الفضلاء، و الصحابة الاخيار۔
 ”سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ عادل، فاضل اور اخیار صحابہ میں سے ہیں۔“

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، باب مناقب الصحابة.....، ج 9، ص 3875)

صحبتِ نبوی

امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ بدر الدین ابوالبرکات احمد بن عبدالاحد سرہندی فاروقی حنفی (متوفی 1034ھ) نے میر محمد نعمان بدخشی کو ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے:

لا تعدل بالصحبة شيئاً كائناً ما كان الا ترى ان اصحاب
 رسول الله صلى الله تعالى عليه و عليهم و سلم و بارك
 فضلوا بالصحبة على من عداهم سوى الانبياء عليهم
 السلام و ان كان ويساً قرنياً او عمراً مروانياً مع بلوغهما
 نهاية الدرجات و وصولهما غاية الكمالات سوى الصحبة
 فلا جرم صار خطا معاوية خيراً من صوابهما ببركة الصحبة
 و سهو عمرو بن العاص افضل من صحوهما لما ان ايمان
 هؤلاء الكبراء صار بالصحبة شهوديا بروية الرسول و
 حضور الملك و شهود الوحي و معاينة المعجزات و ما
 اتفق لمن عداهم هذه الكمالات التي هي اصول سائر
 الكمالات كلها و لو علم ويس فضيلة الصحبة بهذه
 الخاصية لم يمنعه مانع من الصحبة و ما اثر شيئاً من الاشياء

علیٰ هذه الفضيلة و اللہ یختص برحمته من یشاء و اللہ ذو
الفضل العظیم۔ بَیْتُ:

سکندر را نمی بخشد آبی

بہ زور و زرمیسر نیست این کار

اللہم و ان لم تخلقنا فی هذه النشأة فی قرن هؤلاء الا کابر
فاجعلنا فی النشأة الاخرة محشورین فی زمرةهم بحرمة
سید المرسلین علیہ و علیہم الصلوات و التحیات و
التسلیمات۔ والسلام۔

”رسول اللہ ﷺ کی صحابیت کے برابر کسی چیز کو نہ سمجھو چاہے جو بھی ہو، کیا
تجھے معلوم نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ ﷺ کی صحبت ہی کی بنا پر
انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، خواہ اولیس
قرنی ہوں یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما۔ حالاں کہ یہ دونوں ہستیاں حضور سید
عالم ﷺ کی صحبت کے علاوہ تمام درجات کی نہایت اور تمام کمالات کی
غایت تک پہنچی ہوئی ہیں؛ اسی لیے بلاشبہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا
صحبت نبوی کی برکت سے ان دونوں کے صواب سے بہتر ہے، اور سیدنا
عمر و بن عاص رضی اللہ عنہما کا سہواں دونوں کے صواب سے افضل ہے۔ کیوں کہ
ان بزرگوں کا ایمان رسول اللہ ﷺ کی زیارت، فرشتہ کی حاضری، مشاہدہ
وحی اور معجزات دیکھنے کی وجہ سے شہودی ہو چکا تھا اور صحابہ کرام کے سوا کسی
اور کو اس قسم کے کمالات جو تمام کمالات کے اصول ہیں نصیب نہیں
ہوئے؛ (بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ) اگر حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کو معلوم
ہوتا کہ صحبت کی فضیلت میں یہ خاصیت ہے تو انھیں (رسول اللہ ﷺ کی)

صحبت سے کوئی چیز مانع نہ ہوتی، اور وہ اس فضیلت پر کسی چیز کو ترجیح نہ دیتے لیکن اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

(پارہ 1، سورۃ البقرۃ، آیت 105)

سکندر رانمی بخشد آبی بہ زور و زرمیسر نیست این کار
(ہم اُس کی بارگاہ میں دُعا کرتے ہیں کہ) اے اللہ! اگرچہ تو نے ہم کو
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں پیدا نہیں فرمایا مگر بحرمۃ سید
المرسلین علیہ الصلاۃ و السلام قیامت کے دن ہمارا انھی کے
زمرہ میں حشر فرمانا! والسلام“

(مکتوبات، مکتوب صد و ہستم، دفتر اول، حصہ چہارم، ج 1، ص 58-المنتخبات

من المکتوبات.....، المکتوب العشرون و المائة.....، ص 78, 79)

جہنمی کتا

امام شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی مصری حنفی (متوفی 1069ھ) سیدنا معاویہ کا
ذکر خیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

و من یکن یطعن فی معاویۃ

فذاك کلب من کلاب الهاویۃ

”جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔“

(نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض، القسم الثانی فیما یجب علی

الانام من حقوقہ صلی اللہ علیہ وسلم، فصل و من توقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم و برہ، ج 4، ص 525)

علامہ خفاجی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ

نے بھی یہ لکھا ہے۔

(انظر: العطايا النبوية فی الفتاوی الرضویة، ج 29، ص 264، وغیرہ)

خبردار!

الشاہ قطب الدین احمد بن عبدالرحیم (شاہ ولی اللہ) محدث دہلوی حنفی (متوفی 1176ھ) فرماتے ہیں:

باید دانست کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ یکے از اصحاب آل حضرت بود
 صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فضیلت جلیلہ در زمرہ صحابہ رضی اللہ عنہم زہار! در حق او سوے
 ظن نکنی و در ورطہ سب او نہ افتی تا مرتکب حرام نشوی۔ اخراج ابو داؤد
 عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تسبوا
 اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهباً
 ما بلغ مد احدہم و لا نصیفہ۔

(سنن ابو داؤد، باب فی النہی عن سب اصحاب.....، ج 4، ص 214، رقم 4658)
 ”جاننا چاہیے کہ حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اصحاب میں سے ایک تھے اور زمرہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں بڑے صاحب
 فضیلت تھے، خبردار! تم کبھی ان کے حق میں بدگمانی نہ کرنا اور ان کی بدگوئی
 میں مبتلا نہ ہونا تا کہ تم حرام کے مرتکب نہ ہو جاؤ۔ امام ابو داؤد نے
 حضرت سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 میرے صحابہ کو برانہ کہو! اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
 اگر تم میں سے کوئی شخص اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابہ
 کے ایک مدبل کہ آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔“

(ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، مقصد اول، فصل پنجم، تنبیہ سوم، ج 17، ص 571)

نجیب و مجتہد

عارف باللہ، علامہ ابو عبد الرحمن عبد العزیز ملتانی پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی

1239ھ) لکھتے ہیں:

ان معاویہ رضی اللہ عنہ من كبار الصحابة و نجباہم و مجتہدہم و لو سلم انه من صغارہم فلا شك في انه دخل في عموم الاحاديث الصحيحة الواردة في تشریف الصحابة رضی اللہ عنہم۔

”بے شک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کبار صحابہ، نجبا، اور مجتہدین میں سے تھے، اور اگر آپ کو صغار صحابہ میں بھی تسلیم کیا جائے تو پھر بھی یقیناً آپ ان تمام احادیث صحیحہ میں داخل ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بزرگی میں وارد ہوئیں۔“

(النبراس شرح شرح العقائد، محاربات الصحابة واجبة التاويل، ص 330)

راہ نما، راہ یاب

حامی سنت و اہل سنت، ماحی شرک و بدعت، مجددِ اُمت، اعلیٰ حضرت، شیخ الاسلام، امام، حافظ احمد رضا بن مفتی نقی علی خاں ہندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1340ھ) کی ویسے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر مستقل تصانیف ہیں، جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں:

”مسئلہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تحقیق و تنقیح فقیر کے رسالہ:

- 1- البشرى العاجلة من تحف اجلة۔ (۱۳۰۰ھ)
- 2- الاحاديث الراوية لمدح الامير معاوية۔ (۱۳۰۳ھ)
- 3- عرش الاعزاز و الاكرام لاول ملوك الاسلام۔
- 4- ذب الالهواء الواهية في باب الامير معاوية۔ (۱۳۱۲ھ) وغیرہا

میں ہے۔“ [1] (العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية، ج 5، ص 478)

[1] سیدنا معاویہ کے ذکر پاک پر مشتمل انہی رسائل کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت محدثِ اعظم پاکستان مفتی ابو الفضل محمد سردار احمد نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں:

(بقیہ بر صفحہ آئندہ)

لیکن ان کے علاوہ بھی آپ نے اپنے فتاویٰ میں کئی مقامات پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اہل سنت کے عقیدہ کی وضاحت فرمائی ہے۔ مثلاً: ایک مقام پر فرماتے ہیں: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہیں، صحیح ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دُعا فرمائی:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًا وَ اِهْدِ بِهِ۔

”اللہ! اسے راہ نما، راہ یاب کر اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت

دے!“ (العطایا النبویة فی الفتاوی الرضویة، ج 29، ص 279)

انتہائی اہم باتیں

پھر ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے جو بعض روایات کی بنا پر سیدنا معاویہ وغیرہ اجلہ صحابہ پر طعن کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں:

”سیر (تاریخ و سیرت کی کتابوں) میں بہت اکاذیب و اباطیل بھرے

ہیں کیا لا یخفی (جیسا کہ اہل علم پر مخفی نہیں) بہ ہر حال فرق مراتب

نہ کرنا اگر جنوں نہیں تو بد مذہبی ہے، بد مذہبی نہیں تو جنون ہے۔ سیر جن

بالائی باتوں کے لیے ہے اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتے؛ اس کی روایات

مذکورہ کسی حیض و نفاس کے مسئلہ میں بھی سننے کی نہیں نہ کہ معاذ اللہ ان

واہیات و معصلات و بے سرو پا حکایات سے صحابہ کرام حضور سید الانام

علیہ و علی آلہ و علیہم افضل الصلوة و السلام پر طعن پیدا

(بقیہ صفحہ سابقہ:) ”اللہ اللہ! اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی قوتِ علیمہ اور جوشِ ایمانی دیکھیے کہ صحابہ

کرام خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت شان اور ان سے مطاعن کے رد میں کتنے رسالے

تصنیف فرمائے ہیں۔

واقعی! جس سمت آگے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ جزاہم اللہ عنا وعن سائر المسلمین

احسن الجزاء۔“ (سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تیسرا مقدمہ، ص 16, 17) (نقشان عفی عنہ)

کرنا، اعتراض نکالنا، ان کی شانِ رفیع میں رخنہ ڈالنا، کہ اس کا ارتکاب نہ کرے گا مگر گم راہ، بد دین، مخالف و مضاد حق مبین۔ آج کل کے بد مذہب، مریض القلب، منافق شعاران جزافات سیر و خرافات تواریخ و امثالہا سے حضرات عالیہ خلفائے راشدین و اُمّ المؤمنین و طلحہ و زبیر و معاویہ و عمرو بن العاص و مغیرہ بن شعبہ و غیر ہم اہل بیت و صحابہ رضی اللہ عنہم کے مطاعن مردودہ اور ان کے باہمی مشاجرات میں موحش و مہمل حکایات بے ہودہ جن میں اکثر تو سرے سے کذب و وارض اور بہت الحاقات ملعونہ روافض چھانٹ لاتے اور ان سے قرآن عظیم و ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اجماع اُمت و اساطین ملت کا مقابلہ چاہتے ہیں، بے علم لوگ انھیں سن کر پریشان ہوتے یا فکر جواب میں پڑتے ہیں، ان کا پہلا جواب یہی ہے کہ ایسے مہملات کسی ادنیٰ مسلمان کو گنہ گار ٹھہرانے کے لیے مسموع نہیں ہو سکتے نہ کہ ان محبوبانِ خدا پر طعن جن کے مدارج تفصیلی خواہ اجمالی سے کلام اللہ و کلام رسول اللہ مالا مال ہیں۔ جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم امام، حجۃ الاسلام، مرشد الانام محمد محمد غزالی قدس سرہ العالی احياء العلوم شریف میں فرماتے ہیں:

لا تجوز نسبة مسلم الى كبيرة من غير تحقيق، نعم يجوز ان يقال ان ابن ملجم قتل عليا (و قتل ابو لؤلؤة عمر رضی اللہ عنہما) فان ذلك ثبت متواترا۔

(کسی مسلمان کی کسی کبیرہ کی طرف بے تحقیق نسبت کرنا حرام ہے، ہاں یہ کہنا جائز ہے کہ ابن ملجم شقی خارجی اشقی الآخِرین نے امیر المؤمنین مولیٰ علی کریم اللہ وجہہ (اور ابو لؤلؤہ جہنمی و ملعون نے سیدنا عمر پاک رضی اللہ عنہما)

کو شہید کیا کہ یہ بہ تو اتر ثابت ہے)

(احیاء علوم الدین، کتاب آفات اللسان، الآفة الثامنة اللعن، ص 1055)
 حاشی اللہ اگر موزن حین و امثالہم کی ایسی حکایات ادنیٰ قابل التفات ہوں تو
 اہل بیت و صحابہ درکنار خود حضرات عالیہ انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین
 صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہم اجمعین سے ہاتھ دھو بیٹھنا
 ہے؛ کہ ان مہملات مخذولہ نے حضرات سعاداتنا و مولانا آدم صفی اللہ و
 داؤد خلیفۃ اللہ و سلیمان نبی اللہ و یوسف رسول اللہ سے سید المرسلین محمد
 حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہم و سلم تک سب کے
 بارہ میں وہ وہ ناپاک بے ہودہ حکایات موحشہ نقل کی ہیں کہ اگر اپنے ظاہر
 پر تسلیم کی جائیں تو معاذ اللہ اصل ایمان کو رو بیٹھنا ہے۔ ان ہول ناک
 اباطیل کے بعض تفصیل مع رد جلیل کتاب مستطاب شفا شریف امام قاضی
 عیاض اور اس کی شروح وغیرہا سے ظاہر۔ لاجرم ائمہ ملت و ناصحان امت
 نے تصریحیں فرمادیں کہ ان جہال و ضلال کے مہملات اور سیر و تواریخ
 کی حکایات پر ہرگز کان نہ رکھا جائے۔“

(العطایا النبویة فی الفتاوی الرضویة، ج 5، ص 582, 583)

محدث اعظم پاکستان، استاذ العلماء، مفتی ابوالفضل محمد سردار احمد بن میراں بخش
 حنفی (متوفی 1382ھ) بھی یہی فرمایا کرتے۔

(انظر: سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تیسرا مقدمہ، ص 13, 14)

تفسیقہ کی اقتدا کا حکم

علاوہ ازیں اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ کی خدمت عالیہ میں جب سوال کیا
 گیا کہ: کیا حکم ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ امامت کن کن شخصوں کی جائز ہے

اور کن کن کی ناجائز اور مکروہ؟

تو آپ نے اس کے جواب میں یہ بھی فرمایا:
 ”جس کی گم راہی حد کفر تک نہ پہنچی ہو جیسے تفضیلیہ کہ مولیٰ علیٰ کو شیخین
 (سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم) سے افضل بتاتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم۔ یا
 تفسیقیہ کہ بعض صحابہ کرام مثل: امیر معاویہ و عمرو بن عاص و ابو موسیٰ
 اشعری و مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم کو برا کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بہ کراہت
 شدیدہ تحریمیہ مکروہ ہے کہ انھیں امام بنانا حرام اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی
 گناہ اور جتنی پڑھی ہوں سب کا پھیرنا واجب۔“

(العطایا النبویة فی الفتاوی الرضویة، ج 6، ص 626، مسئلہ 816)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی صحابی کو برا کہنا فرض ہے۔

(العطایا النبویة فی الفتاوی الرضویة، ج 24، ص 508، مسئلہ 206)

محمدی بادشاہ

اجلہ علمائے اہل سنت کے استاذ، باعمل و باکرامت عالم ربانی جن کی تربت
 پاک سے بعد از وصال کئی یوم تک خوش بو آتی رہی، فقیہ اعظم ہند، صدر الشریعہ، بدر
 الطریقہ، مفتی محمد امجد علی بن جمال الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1367ھ) لکھتے ہیں:
 ”حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے
 بادشاہ ہیں؛ اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے کہ
 مولدہ بمکہ و مهاجرہ طیبة و ملکہ بالشام۔

وہ نبی آخر الزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا
 اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔

تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے، مگر کس کی! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی سلطنت ہے۔“ (بہار شریعت، امامت کا بیان، ج 17، ص 258)

یہ بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے۔

(انظر: العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية، ج 29، ص 357)

تورات شریف کی عبارت

حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تورات شریف میں منقول جس فرمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ مشہور تابعی سیدنا کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

التوراة مكتوب فيها: محمد عبدی المختار ليس بفظ و لا غليظ و لا صخاب بالاسواق و لا يجرى بالسيئة السيئة، و لكن يعفو و يغفر، مولده بمكة و مهاجره بطيبة و ملكه بالشام۔

”تورات شریف میں لکھا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے چنے ہوئے بندے ہیں جو نہ سخت خو ہیں اور نہ ہی بدمزاج، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے اور بخش دینے والے ہیں۔ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، (مدینہ) طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے اور ملک شام میں ان کی بادشاہت ہوگی۔“

(تاریخ المدینة لابن شبة، اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتب، ج 2، ص 635)

یہ روایت مختلف الفاظ اور ثقہ رجال سے ”سنن دارمی“ سمیت کئی کتب احادیث

میں موجود ہے۔

واجب الاعادہ نماز

حضرت علامہ مفتی غلام سرور بن محمد خدا بخش لاہوری قادری حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی

1431ھ) نے اُستاز العلماء فقیہ اعظم حضرت علامہ مفتی ابوالخیر محمد نور اللہ بن محمد صدیق بصیر پوری نعیمی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1403ھ) سے سوال کیا کہ: جو شخص حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو واجب الاحترام نہ مانے بلکہ آپ کی شان میں گستاخی کرے اور فاسق تک کہے (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) کیا وہ سنی ہے، اور کیا اس کے پیچھے سنی کی نماز جائز ہے؟ اس کا جواب حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا:

”اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اظہر من الشمس ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما بعد الانبیاء و الرسل افضل البشر ہیں اور یوں ہی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ صحابی اور واجب الاحترام ہیں؛ لہذا ایسے شخص کے پیچھے سنی کی نماز مکروہ تحریمہ اور واجب الاعادہ ہے۔“

(فتاویٰ نوریہ، کتاب الصلوٰۃ، ج 1، ص 320)

مالکیہ کا نقطہ نظر

قتل یاسزا

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص کرنے والے کے بارے میں مذہب مہذب مالکیہ کے امام، جن کی بابت امام نسائی فرمایا کرتے: میرے نزدیک تبع تابعین کی جماعت میں ان سے زیادہ عظیم کوئی شخص نہیں۔ سیدنا محمد ثین، امام حافظ ابو عبد اللہ مالک بن انس مدنی اصبحی (متوفی 179ھ) کا مشہور مذہب امام ابوالفضل قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی تکھمی (متوفی 544ھ) نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قال مالک رحمه الله: من شتم النبي صلی اللہ علیہ وسلم قتل، و من شتم اصحابه اذی، و قال ایضاً من شتم احدا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، او عمر، او عثمان، او معاویة، او عمرو بن العاص فان قال كانوا علی ضلال و کفر قتل، و ان شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نکل نکالا شديدا۔

”حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کرنے والے کو قتل کر دیا جائے اور جو آپ علیہ السلام کے صحابہ کی بدگوئی کرے اسے تادیب کی جائے، امام مالک رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں: سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا معاویہ، سیدنا عمرو بن العاص یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کی اس طرح بدگوئی کرے کہ وہ گم راہی اور کفر پر تھے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اگر اس کے علاوہ بدگوئی کرے تو اسے سخت

ترین سزا دی جائے۔“ (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، فصل و نسب ال

بیتہ و ازواجه و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 2، ص 308)

امام صاحب کا یہ مذہب:

- 1- شیخ الاسلام حافظ احمد بن علی (ابن حجر) مکی شافعی (متوفی 974ھ)
(انظر: الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع و الزندقة، خاتمة، ص 367,368)
- 2- حضرت مجدد الف ثانی شیخ بدر الدین احمد بن عبد الاحد فاروقی حنفی (متوفی 1034ھ) (مکتوبات شریف، دفتر اول، حصہ چہارم، مکتوب نمبر دو صد و پنجاہ و یکم (251) ج 17، ص 57,58-المنتخبات من المکتوبات..... ص 121,122)
- 3- عارف باللہ علامہ عبدالعزیز بن احمد پراہروی (متوفی 1239ھ)
(الناہیة عن طعن امیر المؤمنین معاویة رضی اللہ عنہ، فصل فی فضائل معاویة رضی اللہ عنہ، الحادیة و العشرون، ص 31)
- 4- خاتمة المحققین سید محمد امین بن عمر (ابن عابدین) شامی حنفی (متوفی 1259ھ)
(مجموعہ رسائل ابن عابدین، الرسالة الخامسة عشرة، کتاب تنبیہ الولاة و الاحکام علی احکام شاتم خیر الانام او احد اصحابہ الکرام علیہ و علیہم الصلاة و السلام، ص 358) نے بھی نقل کیا ہے۔

قتل کا حکم، کیوں؟

امام صاحب کے اسی فرمان کے تحت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پس معلوم شد کہ شتم اور از کبار دانستہ حکم بہ قتل شاتم او کردہ و ایضا شتم اورا در رنگ شتم ابی بکر و عمر و عثمان ساختہ است۔

”پس معلوم ہوا کہ امام مالک کے نزدیک سیدنا معاویہ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اسی لیے آپ نے اس کے مرتکب کے قتل کا حکم صادر فرمایا، اور ایسے ہی آپ کے نزدیک سیدنا معاویہ کو گالی دینا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کو گالی دینا ہے۔“

(مکتوبات شریف، دفتر اول، حصہ چہارم، مکتوب نمبر دو صد و پنجاہ و یکم (251) ج 17، ص 59)

حنابلہ کی آراء گرامی

صرف اچھی بات

مسلمانوں کے وہ جلیل القدر امام جنہیں دس لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ جن کی نماز جنازہ میں تقریباً بیس لاکھ مسلمان شریک ہوئے، اور وفات کے دن نماز جنازہ و دفن کے منظر سے متاثر ہو کر بیس ہزار یہودی و نصرانی و مجوسی مسلمان ہو گئے۔ نیز آپ کی وفات کے دو سو تیس برس بعد اتفاقاً آپ کی قبر مبارک کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ جسم کیا آپ کا تو کفن تک میلا نہیں ہوا۔ [1]

اُس امام الحنابلہ، سید المحدثین، حافظ ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل بغدادی (متوفی 241ھ) سے جب پوچھا گیا کہ اے ابو عبد اللہ!

ما تقول فيما كان من علي و معاوية رحمهما الله؟

”آپ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟“

تو آپ نے فرمایا:

ما اقول فيها الا الحسنی رحمہم اللہ اجمعین۔

”میں ان کے متعلق اچھی بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، اللہ عز و جل کی ان

سب پر رحمتیں ہوں۔“

(السنة، ذکر صفین و الجمل و ذکر من شهد ذلك و من لم يشهد، ج 2، ص 460، رقم 713 - مجمل الرغائب فيما للامام احمد بن حنبل من المناقب، الباب السابع فی ذکر اعتقاده فی الاصول، ص 133)

[1] انظر: اولیاء رجال الحدیث، امام احمد، ص 29، 31، رقم 3 - تهذيب التهذيب، حرف

الالف، ذکر من اسمه احمد، ج 1، ص 73، رقم 126

عافیت کا سوال

امام احمد رضی اللہ عنہ کے شاگرد حافظ ابوالحسن عبدالملک بن عبدالحمید میمونى بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کو فرماتے سنا:

ما لهم و لمعاوية؟ اسأل الله العافية۔

”لوگوں کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بابت کیا ہو گیا ہے (کہ ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں) ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں (کہ رب تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنے)“

یا ابا الحسن! اذا رايت احدا يذكر اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام۔

”اے ابوالحسن! جب تم کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برائی سے یاد کرتا دیکھو تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو!“

(الحجة فی بیان المحجة و شرح عقيدة اهل السنة، ج 2، ص 397، رقم 367)

ناپاک باطن والا

امام صاحب سے کسی نے جب یہ سوال کیا کہ حضرت! ایک شخص سیدنا معاویہ اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی تنقیص کرتا ہے۔

ایقال له رافضی؟

”کیا اُسے رافضی کہا جائے؟“

تو آپ نے فرمایا:

انه لم یجتري علیهما الا و له خبیثة سوء ما انتقص احد

احداً من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا له داخله سوء۔

”بے شک اس نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف اس لیے جرات کی کہ

وہ اپنے اندر برائی چھپائے ہوئے ہے، اور جو شخص بھی کسی صحابی کی تنقیص کرتا ہے اس کی اندرونی حالت بری ہوتی ہے۔“

(السنة، ذکر ابی عبد الرحمن معاویة.....، ج 2، ص 447، رقم 690-تاریخ دمشق، معاویة بن صخر.....، ج 59، ص 210-البداية و النہایة، ترجمة معاویة و ذکر شیء من ایامہ.....، ج 8، ص 148)

کھانے سے پرہیز

امام احمد رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ

یا ابا عبد اللہ لی خال ذکر انه ینتقص معاویة، و ربما اكلت معه؛ فقال ابو عبد اللہ مبادرا: لا تاكل معه۔

”اے ابو عبد اللہ! میرا ماموں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ بسا اوقات کھانا کھا لیتا ہوں؛ امام صاحب نے فوراً فرمایا: اس کے ساتھ کھانا مت کھایا کر!“

(السنة، ذکر ابی عبد الرحمن معاویة.....، ج 2، ص 448، رقم 693)

سب سے بہتر لوگ

امام احمد رضی اللہ عنہ سے یہ بھی سوال ہوا کہ سیدنا معاویہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز میں سے کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

معاویة افضل۔

”سیدنا معاویہ افضل ہیں۔“

پھر فرمایا:

لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا۔ قال النبی

صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس قرنی الذین بعثت فیہم۔

”ہم رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے کیوں کہ نبی پاک ﷺ کا فرمان ہے: میرے زمانہ کے لوگ سب سے بہتر ہیں جن میں میری بعثت ہوئی۔“

(السنة، ذکر ابی عبد الرحمن معاویة.....، ج 2، ص 434، رقم 660)

قطع تعلقی

امام صاحب سے کسی نے کہا:

یا ابا عبد اللہ ان ہنا رجل یفضل عمر بن عبد العزیز علی معاویة بن ابی سفیان۔

”اے ابو عبد اللہ! یہاں ایک آدمی ہے جو حضرت عمر بن عبد العزیز کو سیدنا معاویہ پر فضیلت دیتا ہے۔“ (یعنی کہتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز سیدنا معاویہ سے افضل ہیں)

امام صاحب نے فرمایا:

لا تجالسہ، و لا تؤاکلہ و لا تشاربہ، و اذا مرض فلا تعدہ۔
 ”ایسے نظریات کے حامل آدمی کے پاس نہ بیٹھو، نہ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ نہ پانی پیو، وہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت بھی نہ کرو!“
 (کیوں کہ وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو اہل سنت کا نہیں)

(ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب، یحییٰ بن عبد الوہاب بن محمد.....، ج 1، ص 301)

نشانِ سجود

سیدنا امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا:

الیس نترحم علی اصحاب رسول اللہ ﷺ کلہم: معاویة، و عمرو بن العاص، و علی ابی موسی الاشعری، و المغیرة؟

”کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جن میں سیدنا معاویہ، سیدنا عمرو بن عاص، سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں، کے لیے رحمت کی دُعا نہ کریں؟“

امام صاحب نے فرمایا:

نعم، کلہم وصفہم اللہ فی کتابہ فقال: سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ (پارہ 26، سورۃ الفتح، آیت 29)

”ضرور کرو! اللہ رب العزت نے ان سب کی صفت قرآن پاک میں یہ بیان فرمائی ہے: ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان۔“

(السنة، ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین، ج 2، ص 477، رقم 755)

امام صاحب کا یہ فرمان امام حافظ جمال الدین عبدالرحمان بن علی (ابن جوزی) حنبلی (متوفی 597ھ) اور امام الصالح زکی الدین عبداللہ بن محمد خزرجی حنبلی (متوفی بعد 681ھ) نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(انظر: مناقب الامام احمد بن حنبل، الباب العشرون، سياق قوله فيما شجر بين الصحابة، ص 221-مجملة الرغائب فيما للامام احمد بن حنبل من المناقب، الباب السابع في ذكر اعتقاده في الاصول، ص 133)

خال المؤمنین نہ کہیں؟

حنابلہ کے امام و شیخ، جامع علوم احمد بن حنبل، فقہ حنبلی کے مُدَوِّنِ اَوَّل، امام، حافظ ابو بکر احمد بن محمد الخلال حنبلی (متوفی 311ھ) لکھتے ہیں: سیدنا امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا:

ما تقول رحمك الله فيمن قال: لا اقول ان معاوية كاتب الوحي و لا اقول انه خال المؤمنین فانه اخذها بالسيف غصبا؟ قال ابو عبد الله: هذا قول سوء ردیء بجانبون

هؤلاء القوم و لا يجالسون و نبين امرهم للناس۔

”(اے امام!) اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے! آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جن کا سیدنا معاویہؓ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں نہ ہی خال المؤمنین، بلکہ تلواری کے زور پر انہوں نے خلافت غصب کی؟ امام صاحب نے فرمایا: ان کا یہ قول بہت برا اور پھینک دینے کے قابل ہے، ایسوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے لیے ان کا معاملہ بیان کریں گے۔“

(السنة، ذکر ابی عبد الرحمن معاویة.....، ج 2، ص 434، رقم 659)

امام صاحب کے اس فرمان کے بارے میں ”السنة“ کے محقق دکتور عطیہ بن عتیق زہرانی اور ابو معاذ محمود بن امام علی محمد صلابی نے لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

(انظر: اسکات الکلاب العاویة بفضائل خال المؤمنین معاویة، الفصل الرابع فی اقوال الصحابة رضی اللہ عنہم و التابعین و من بعدهم فی فضل معاویة رضی اللہ عنہ، ص 75۔ معاویة بن ابی سفیان شخصیتہ و عصرہ الدولة السفیانیة، ثالثاً: ثناء العلماء علی معاویة، ص 214)

✽ نیز جب آپ سے یہ کہا گیا کہ ان قوما قالوا لا نقول معاویة خال المؤمنین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ خال المؤمنین نہیں۔

فغضب و قال ما اعتراضهم فی هذا الموضوع؟ یجفون حتی یتوبوا۔

”تو آپ نے ناراض ہو کر فرمایا: یہ کون سی جائے اعتراض ہے؟ ایسے لوگ ظلم کر رہے ہیں یہاں تک کہ توبہ کر لیں۔“

(السنة، ذکر ابی عبد الرحمن معاویة.....، ج 2، ص 434، رقم 658)

امام صاحب کے اس ارشاد کی بابت بھی ڈاکٹر عطیہ بن عتیق زہرانی نے کہا ہے کہ اسنادہ صحیح۔

”اس کی سند صحیح ہے۔“ (ایضاً)

دو باتوں کی وضاحت

امام احمد قدس سرہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ان دونوں فرامین کے بعد یہاں دو باتوں کی وضاحت از حد ضروری ہے:

اولاً: یہ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کیوں کہا جاتا ہے اور اس بابت دیگر محدثین و علمائے عظام کی کیا رائے ہے؟

ثانیاً: آپ کے کاتب وحی ہونے کے بارے میں امام احمد کے علاوہ دیگر علماء و محدثین کیا فرماتے ہیں؟

پہلی بات

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کیوں کہا جاتا ہے..... الخ

مدارج مرتضیٰ، قاطع رفض و خروج امام احمد بن حنبل روح اللہ روحہ و نور

ضریحہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت! کیا سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر

”خال المؤمنین“ ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ دونوں بزرگ خال المؤمنین ہیں۔

پھر انھیں خال المؤمنین کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

معاویة اخو ام حبیبة بنت ابی سفیان زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و

رحمہما، و ابن عمر اخو حفصة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و

رحمہما۔

(ان دونوں بزرگوں کو خال المؤمنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ) سیدنا

معاویہ رضی اللہ عنہ تو نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ سیدہ اُمّ حبیبہ (رملہ) بنت ابو سفیان کے بھائی ہیں۔ اللہ عزوجل ان دونوں پر رحم فرمائے! اور سیدنا ابن عمر حضور کی زوجہ مطہرہ سیدہ حفصہ (بنت فاروق اعظم) کے بھائی ہیں۔ اللہ عزوجل ان دونوں پر بھی رحم فرمائے!“

امام احمد بن حنبل کی یہ بات سن کر سائل نے دوبارہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کہنے کے بارے میں پوچھا تو امام صاحب نے فرمایا:
 نعم۔ ”ہاں۔“ (سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خال المؤمنین ہیں)

(السنة، ذکر ابی عبد الرحمن معاویة.....، ج 2، ص 433، رقم 657)

تفسیر ابن عباس

امام احمد کی تائید سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا سورہ ممتحنہ کی سات ویں آیت کی تفسیر میں بیان کردہ یہ قول بھی کرتا ہے کہ: جب سیدہ اُمّ حبیبہ رسول اللہ ﷺ کی زوجیت میں آئیں

فكانت ام حبيبة ام المؤمنين، و معاوية خال المؤمنين۔

”تو آپ اُمّ المؤمنین (مومنوں کی ماں) بن گئیں اور سیدنا معاویہ (ان کے بھائی ہونے کی بنا پر) خال المؤمنین۔“ (یعنی ایمان والوں کے ماموں ہو گئے)

(الشریعة، باب ذکر مصاهرة النبی ﷺ.....، ج 5، ص 2448، رقم 1930 وغیرہ)

معتد بہ علما کی آرا

یہی وجہ ہے کہ معتد بہ علما کے کرام و محدثین عظام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ”خال المؤمنین“ کہتے ہیں۔ چنانچہ:

1۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک (متوفی 181ھ) کے استاذ اور جلیل القدر تابعین کے

شاگرد ابو محمد حکم بن ہشام ثقفی کوئی سے ایک آدمی نے پوچھا: حضرت! آپ سیدنا معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:
ذاک خال کل مؤمن۔

”وہ ہر مؤمن کے ماموں ہیں۔“

(الثقات للعجلی، باب الحاء ص 127، 128 رقم 318)

2- علامہ مطہر بن طاہر مقدسی (متوفی 355ھ) فرماتے ہیں:

معاویة خال المؤمنین۔

”سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خال المؤمنین ہیں۔“

(البدء و التاریخ، ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب،

و ذکر فرق اصحاب الحدیث، ج 5، ص 13، 149)

3- امام حافظ ابو بکر محمد بن حسین آجری بغدادی (متوفی 360ھ) فرماتے ہیں:

(معاویة) خال المؤمنین۔

(الشریعة، باب ذکر مصاہرة النبی ﷺ، ج 5، ص 2431، 2448، رقم 1930)

4- امام قاضی ابوالحسین محمد بن محمد حنبلی (ابن ابی یعلیٰ) (متوفی 526ھ) فرماتے ہیں:

معاویة خال المؤمنین۔ (الاعتقاد، الاعتقاد فی الصحابة، ص 43)

5- امام حافظ ابوالقاسم اسماعیل بن محمد قرشی طلمی (قوام السنہ) (متوفی 535ھ)

فرماتے ہیں:

(معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ) خال المؤمنین۔

(الحجة فی بیان المحجة و شرح عقیدة اهل السنة، امہات المؤمنین

الطہرات و ان معاویة بن ابی سفیان کاتب وحی اللہ، ج 1، ص 248)

6- حافظ ابو عبد اللہ حسین بن ابراہیم جوزقانی (متوفی 543ھ) فرماتے ہیں:

معاویة خال المؤمنین۔ (الاباطیل و المناکیر و الصحاح و المشاہیر، باب فی

فضائل طلحة و الزیر و معاویة، ص 116، رقم 191)

7- علامہ ابو الفتوح محمد بن محمد ہمدانی (ابو الفتوح الطائی) (متوفی 555ھ) فرماتے ہیں:

(معاویة) خال المؤمنین و کاتب وحی رسول رب العالمین
و معدن الحلم و الحکم۔

”سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خال المؤمنین، رب العالمین جد جلالہ کے
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی اور حلم و دانائی کی کان تھے۔“

(کتاب الاربعین فی ارشاد السائرین الی منازل المتقین او

الاربعین الطائیة، الحدیث التاسع و العشرون.....، ص 174)

8- امام حافظ ابو القاسم علی بن حسن (ابن عساکر) شافعی (متوفی 571ھ) لکھتے ہیں:

(معاویة رضی اللہ تعالیٰ عنہ) خال المؤمنین۔

(تاریخ دمشق، ذکر من اسمه معاویة، معاویة بن صخر.....، ج 59، ص 55، رقم 7510)

9- عارف باللہ، مولانا روم، شیخ جلال الدین محمد بن محمد بہاؤ الدین رومی (متوفی

604ھ) نے بھی سیدنا معاویہ کو ”خال مومنناں“ لکھا ہے۔

(مشنوی مولوی معنوی، دفتر دوم، بیدار کردن ابلیس مغاویہ را کہ بر خیز کہ وقت نماز بیگاہ شد، ص 63)

اور آپ کے حوالے سے یہ بات علامہ نور الدین علی بن محمد القاری حنفی (متوفی

1014ھ) نے بہ اس الفاظ بیان کی ہے:

و لذا عبر عنه المولوی فی المشنوی بـ ”خال المؤمنین“، و

لکونه من اجلاء کتبا الوحی۔

(مرقاة المفاتیح شرح مشکوة المصابیح، باب ذکر اللہ

عزوجل و التقرب الیہ، الفصل الثالث، ج 4، ص 1557)

مفسر شہیر، محدث کبیر مفتی احمد یار بن محمد یار نعیمی حنفی (متوفی 1391ھ) نے بھی

مولانا رومی کے حوالے سے یہی بیان کیا ہے۔

(انظر: مرآة المناجیح شرح مشکوة المصابیح، باب ذکر اللہ، ج

3، ص 320- امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حالات، پہلا باب، ص 40)

10- امام الائمہ، مفتی الامام ابو محمد موفق الدین عبداللہ بن احمد (ابن قدامہ) مقدسی حنبلی (متوفی 620ھ) لکھتے ہیں:

معاویة خال المؤمنین و کاتب وحی اللہ احد خلفاء المسلمین رضی اللہ عنہم۔

”سیدنا معاویہ خال المؤمنین، اللہ کی وحی کے کاتب اور مسلمانوں کے ایک

خلیفہ تھے۔“ (لمعة الاعتقاد، محمد (ﷺ) خاتم النبیین، ص 40)

11- علامہ جمال الدین ابو الفضل محمد بن مکرم (ابن منظور) انصاری افریقی (متوفی 711ھ) لکھتے ہیں:

معاویة خال المؤمنین۔

(مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر، ذکر بنیہ و بناتہ و ازواجہ و سربانہ، ج 2، ص 284)

12- حافظ عماد الدین ابو القدا اسماعیل بن عمر (ابن کثیر) قرشی دمشقی (متوفی 774ھ) لکھتے ہیں:

معاویة خال المؤمنین۔

(البدایة و النہایة، فضل فی تزویج النبی ﷺ بام حبیبہ، ج 4، ص 163، ج 8، ص 125)

13- علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن علی حسینی مقریزی (متوفی 845ھ) لکھتے ہیں:

معاویة خال المؤمنین۔

(اتعاظ الحنفاء باخبار الائمة الفاطمین الخلفاء، ج 1، ص 131)

14- امام حافظ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد (ابن حجر) یثیمی شافعی (متوفی 974ھ) لکھتے ہیں:

معاویة بن ابی سفیان اخی ام حبیبہ زوجة رسول اللہ

ﷺ خال المؤمنین اجمعین، کاتب الوحی۔

”سیدنا معاویہ بن ابوسفیان رسول اللہ ﷺ کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام حبیبہ

کے بھائی، تمام مومنوں کے ماموں اور کاتب وحی تھے۔“

(الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدع

و الزندقة، خاتمة فی امور مهمة، ص 355)

15- علامہ نور الدین علی بن محمد (ملا علی قاری) حنفی (متوفی 1014ھ) لکھتے ہیں:

(معاویة) و هو خال المؤمنین۔

(مرقاة المفاتیح شرح مشکوة المصابیح، کتاب الرقاق،

الفصل الثالث، ج 8، ص 3258، رقم 5203)

16- علامہ شمس الدین ابوالعون محمد بن احمد سفارینی حنبلی (متوفی 1188ھ) لکھتے ہیں:

معاویة خال المؤمنین۔

(غذاء الالباب فی شرح منظومة الآداب، مطلب فی ذم الیهوی.....، ج 2، ص 457)

17- مشہور زمانہ بزرگ حضرت پیر سید مہر علی بن سید نذر الدین گولڑوی حنفی (متوفی

1356ھ) کی سب سے پہلی تصنیف ”تحقیق الحق فی کلمة الحق“ کا

ترجمہ مولانا صوفی عبدالرحمن اور مفتی فیض احمد صاحب نے کیا ہے، اس کے

حاشیہ میں فرقوم ہے:

”حضرت شیخ اکبر قدس سرہ فتوحات مکیہ..... میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ

کے متعلق لکھتے ہیں: کاتب رسول اللہ ﷺ و صہرہ خال

المؤمنین۔ یعنی وہ آں حضرت ﷺ کے کاتب اور برادر نسبتی ہونے کی

بنا پر مومنین کے ماموں ٹھہرے۔ کیوں کہ ان کی ہم شیرہ حضرت اُمّ

المومنین اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا آں حضرت ﷺ کی زوجہ محترمه تھیں۔“

(تحقیق الحق فی کلمة الحق، اسامی نویندگان آں حضرت ﷺ، ص 159)

18- زاہد بے ریا، پیکر زہد و تقویٰ، امیر دعوت اسلامی، حضرت مولانا ابوبلال محمد

الیاس بن حاجی عبدالرحمن عطار قادری حنفی اطاہ اللہ عمرہ اپنی مشہور زمانہ

کتاب ”فیضانِ سنت“ میں لکھتے ہیں:

”تمام مومنین کے ماموں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ..... (چوں کہ سیدنا

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور سر ایا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ

اور تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، اور ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے اس لیے

حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے ماموں کہلاتے ہیں)“

(فیضانِ سنت (قدیم)، جماعت کے فضائل، شیطان نے نماز کے لیے جگایا، ص 938، 937)

دوسری بات

آپ رضی اللہ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے بارے میں..... الخ

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد (ایک روایت کے مطابق)

آپ کے والد گرامی رضی اللہ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں عرض کی تھی: یا نبی

اللہ! میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیجیے! تو حضور نے ان کی عرضی قبول فرمائی۔

(انظر: صحیح مسلم، باب من فضائل ابی سفیان.....، ج 4، ص 1945، رقم 2501-

صحیح ابن حبان، ذکر ابی سفیان.....، ج 16، ص 189، رقم 7209، وغیرہ)

اور سیدنا معاویہ کو اپنا کاتب مقرر فرما دیا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ اس خدمت کے لیے

بارگاہِ اقدس میں حاضر رہنے لگے۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

ان معاویة کان یکتب بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

سیدنا معاویہ حضور کی بارگاہ میں کتابت کا فریضہ سرانجام دیتے تھے۔

(المعجم الکبیر للطبرانی، مسند عبد اللہ بن عمرو.....، ج 13، ص 554، رقم 14446)

حافظ نور الدین ہاشمی (متوفی 807ھ) کہتے ہیں: اس حدیث کی سند حسن ہے۔

(مجمع الزوائد و منبع الفوائد، باب ما جاء فی معاویة.....، ج 9، ص 357، رقم 15924)

شاگردِ رشیدِ سیدِ والا

اسی دوران نبی کریم ﷺ آپ کی تربیت بھی فرمایا کرتے جیسا کہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں لکھ رہا تھا تو حضور ﷺ نے فرمایا:

يا معاوية! الق الدواة، و حرف القلم، و انصب الباء، و فرق السين، و لا تعور الميم، و حسن الله، و مد الرحمن، و جود الرحيم۔

”اے معاویہ! دوات کی سیاہی درست رکھو، قلم کو ٹیڑھا کرو، (بسم اللہ الرحمن الرحیم کی) ’ب‘ کھڑی لکھو، ’س‘ کے دندانے جدا رکھو، ’م‘ کے دائرے کو اندھانہ کرو (کھلا رکھو)، لفظ اللہ خوب صورت لکھو، لفظ ’رحمن‘ کو دراز کرو اور لفظ ’رحیم‘ عمدگی سے لکھو!“

فضائل القرآن للمستغفری، باب ما جاء فی فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم..... ج 1، ص 436، رقم 556- الفردوس بمأثور الخطاب، باب الیا، ج 5، ص 394، رقم 853- آداب الاملاء و الاستملاء، الحبر و الكاغذ، ص 170- نهاية الارب فی فنون ادب، و من معجزاته عصمة الله تعالى له من الناس..... ج 18، ص 346- مدخل لابن الحاج، فصل فی نية الناسخ و کیفیتها، ج 4، ص 84. العطايا النبوية فی الفتاوی الرضویة، (فتاوی رضویہ) رسالہ خالص الاعتقاد، ج 29، ص 459 وغیرہا)

وحیِ الہی کی کتابت

پھر ایک وقت آیا کہ عام کتابت کے علاوہ نبی مکرم ﷺ نے آپ کی کتابت وحی کی بھی ذمہ داری لگادی، تو اس طرح دیگر کتاب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ بھی یہ فریضہ سرانجام دینے لگے۔

آپ ﷺ کی اسی ذمہ داری کی بابت سیدنا عبد اللہ بن عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

و كان يكتب الوحي-

”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وحی لکھا کرتے تھے۔“

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان امام بیہقی (متوفی 458ھ) نے نقل کیا ہے،
اور اس کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں:

”قد صح عن ابن عباس۔“

(انظر: دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشريعة، باب ما جاء في دعائه عليه السلام
على من اكل بشماله.....، ج 6، ص 243-تاريخ اسلام، حرف الميم، معاوية بن ابي
سفيان.....، ج 4، ص 309)

جلیل المرتبت علما کہتے ہیں

اسی شرف سے مشرف ہونے کی بنا پر جلیل المرتبت محدثین اور علمائے ربانیین و
اولیائے کاملین آپ کو ”کاتب وحی“ کہہ کر یاد کرتے رہے۔ چنانچہ:

1- حافظ ابو بکر محمد بن حسین آجری بغدادی (متوفی 360ھ) فرماتے:

معاوية رحمه الله كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وحى الله
عز وجل و هو القرآن بامر الله عز وجل-

”رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب سیدنا معاویہ پر اللہ رحم فرمائے آپ اللہ کے
حکم سے وحی الہی، قرآن پاک لکھا کرتے تھے۔“

(الشريعة، كتاب فضائل معاوية.....، ج 5، ص 243)

2- حافظ الکبیر امام ابو بکر احمد بن حسین خراسانی بیہقی (متوفی 458ھ) فرماتے ہیں:

و كان يكتب الوحي-

”سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے۔“

(دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشريعة،

باب ما جاء في دعائه عليه السلام.....، ج 6، ص 243)

- 3- امام شمس الائمه ابو بکر محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) فرماتے ہیں:
- و کان کاتب الوحی۔ (المبسوط، کتاب الاکراه، ج 24، ص 47)
- 4- امام قاضی ابوالحسین محمد بن محمد حنبلی (ابن ابی یعلیٰ) (متوفی 526ھ) لکھتے ہیں:
- (معاویة) کاتب وحی رب العالمین۔
- ”حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تمام جہانوں کے رب کی وحی کے کاتب تھے۔“ (الاعتقاد، الاعتقاد فی الصحابة، ص 43)
- 5- امام حافظ ابوالقاسم اسماعیل بن محمد قرشی طلحی (قوام السنہ) (متوفی 535ھ) لکھتے ہیں:
- معاویة کاتب الوحی۔
- (الحجة فی بیان المحجة و شرح عقيدة اهل السنة، ج 2، ص 570، رقم 566)
- 6- علامہ ابوالحسن علی بن بسام الشترینی اندلسی (متوفی 542ھ) فرماتے ہیں:
- معاویة بن ابی سفیان کاتب الوحی۔
- (الذخيرة فی محاسن اهل الجزيرة، ج 1، ص 110)
- 7- حافظ ابو عبد اللہ حسین بن ابراہیم جوزقانی (متوفی 543ھ) فرماتے ہیں:
- (معاویة) کاتب الوحی۔
- (الاباطیل و المناکیر و الصحاح و المشاہیر، باب فی فضائل طلحة و الزبیر و معاویة.....، ص 116، رقم 191)
- 8- علامہ ابو الفتوح محمد بن محمد طائی ہمدانی (ابو الفتوح الطائی) (متوفی 555ھ) لکھتے ہیں:
- (معاویة) کاتب وحی رسول رب العالمین و معدن العلم و الحکم۔
- ”سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی اور

علم و دانائی کی کان تھے۔“

(کتاب الاربعین فی ارشاد السائرین الی منازل المتقین او

الاربعین الطائفة، الحدیث التاسع و العشرون.....، ص 174)

9- امام حافظ ابوالقاسم علی بن حسن بن ہبۃ اللہ شافعی (ابن عساکر) (متوفی 571ھ) لکھتے ہیں:

(معاویۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) خال المؤمنین و کاتب وحی

رب العالمین۔ (تاریخ دمشق الکبیر، ذکر من اسمه معاویۃ، معاویۃ

بن صخر.....، ج 59، ص 55، رقم 7510)

10- امام حافظ جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی الجوزی (متوفی 597ھ)

نے ”کشف المشکل“ میں رسول اللہ ﷺ کے 12 کاتبوں کا تذکرہ کیا

ہے جن میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔

(انظر: کشف المشکل من حدیث الصحیحین، کشف

المشکل من مسند زید بن ثابت، ج 2، ص 96)

11- ابو جعفر محمد بن علی بن محمد ابن طباطبائی (ابن ا^{لطقطقی}) (متوفی 709ھ) نے

لکھا ہے:

و اسلم معاویۃ و کتب الوحی فی جملة من کتبہ بین یدی

الرسول ^{صلی اللہ علیہ وسلم}۔ (الفخری فی الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة، ذکر

شیء من سیرة معاویۃ و وصف طرف من حالہ، ص 109)

12- حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر قرشی شافعی (متوفی 774ھ) لکھتے ہیں:

ثم کان ممن یکتب الوحی بین یدی رسول اللہ ^{صلی اللہ علیہ وسلم}۔

(جامع المسانید و السنن الہادی لا قوم سنن، معاویۃ

بن ابی سفیان، ج 8، ص 31، رقم 1760)

13- حافظ ابراہیم بن موسیٰ مالکی (شاطبی) (متوفی 790ھ) نے بھی رسول اللہ ﷺ

کے کتاب وحی میں سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا معاویہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا زید بن ثابت وغیرہم کا ذکر کیا ہے۔

(انظر: الاعتصام، ص 239)

14- اسی طرح حافظ ابوالحسن نورالدین علی بن ابوبکر بن سلیمان پٹنمی (متوفی 807ھ)

نے بھی رسول پاک ﷺ کے کتاب وحی کے باب میں سیدنا معاویہ کا تذکرہ کیا

ہے۔ (انظر: مجمع الزوائد و منبع الفوائد، باب فی

کتاب الوحی، ج 1، ص 153، رقم 686)

15- علامہ تقی الدین ابوالعباس احمد بن علی حسینی مقریزی (متوفی 845ھ) فرماتے ہیں:

و کان یکتب الوحی۔

”سیدنا معاویہ کاتب وحی تھے۔“

(امتاع الاسماع بما لنبی من الاحوال و الاموال و الحفدة و المتاع،

و اما اجابة الله دعوة رسول ﷺ، ج 12، ص 113)

16- امام حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی (متوفی 852ھ) لکھتے ہیں:

معاویة بن ابی سفیان... الخليفة صحابی، اسلم قبل الفتح، و

کتب الوحی۔

”سیدنا معاویہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، آپ خلیفۃ المسلمین، صحابی

اور کاتب وحی ہیں۔“ (تقریب التهذیب، حرف المیم، ص 470، رقم 6758)

17- امام حافظ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی (متوفی 855ھ) لکھتے ہیں:

معاویة بن ابی سفیان صخر بن حرب الاموی کاتب الوحی۔

(عمدة القاری، شرح صحیح البخاری، کتاب العلم، باب

من یرد الله به خیراً یفقهه فی الدین، ج 2، ص 73، رقم 71)

18- علامہ شہاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد قسطلانی مصری شافعی (متوفی 923ھ)

لکھتے ہیں:

و هو مشهور بكتابة الوحي-

”سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مشہور کاتب وحی ہیں۔“

(المواهب اللدنیة بالمنح المحمدية، الفصل السادس

فی امرائه ورسله و کتابہ.....، ج 1، ص 533.

علامہ قسطلانی نے ”ارشاد الساری“ میں بھی لکھا ہے کہ

(معاویة) بن ابی سفیان صخر بن حرب کاتب الوحي

لرسول اللہ ﷺ ذا المناقب الجمعة-

(انظر: ارشاد الساری لشرح صحيح البخاری، کتاب العلم، باب

من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، ج 1، ص 170، رقم 71.

19- امام حافظ شہاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد (ابن حجر) بیہقی مکی شافعی (متوفی

974ھ) لکھتے ہیں:

معاویة بن ابی سفیان اخي ام حبيبة زوجة رسول الله

ﷺ..... کاتب الوحي-

”حضرت سیدنا معاویہ بن ابوسفیان سیدہ ام حبیبہ زوجہ رسول اللہ ﷺ

کے بھائی اور کاتب وحی ہیں۔“

(الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدع و الزندقة، خاتمة فی امور مهمة، ص 355

20- علامہ عبدالملک بن حسین بن عبدالملک عصامی مکی (متوفی 1111ھ) نے لکھا ہے:

معاویة و كان يكتب الوحي-

(سمط النجوم العوالی فی انباء الاوائل و التوالی، ذکر مناقبه، ج 3، ص 155.

21- علامہ اسماعیل بن مصطفیٰ حنفی حنفی (متوفی 1127ھ) لکھتے ہیں:

(معاویة رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کاتب الوحي-

(تفسیر روح البیان، جز 1، تحت سورة البقرة، آية 90، ج 1، ص 180)

22- اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، شیخ الاسلام، حافظ احمد رضا بن مفتی نقی علی خاں ہندی حنفی قدس سرہ (متوفی 1340ھ) فرماتے ہیں:

”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم کی عبارت کریمہ نازل ہوتی، عبارت میں اعراب نہیں لگائے جاتے (تھے)، حضور کے حکم سے صحابہ کرام مثل: امیر المؤمنین عثمان غنی و حضرت زید بن ثابت و امیر معاویہ وغیرہم رضی اللہ عنہم اسے لکھتے؛ ان کی تحریر میں بھی اعراب نہ تھے، یہ تابعین کے زمانے سے رائج ہوئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(العطایا النبویة فی الفتاوی الرضویة، ج 26، ص 492، 493)

23- شارح بخاری، علامہ سید محمود احمد بن سید ابوالبرکات احمد بن سید دیدار علی شاہ محدث الوری حنفی (متوفی 1419ھ) فرماتے ہیں:

”ایمان لانے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خدمت نبوی سے جدا نہ ہوئے، ہمہ وقت پاس رہتے اور وحی الہی کی کتابت کرتے۔“

(شان صحابہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ص 32)

ان حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ اہل سنت کے عظیم امام سیدنا احمد بن حنبل سمیت اجلہ ائمہ محدثین اور علماء و محققین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی و خال المؤمنین کہتے اور لکھتے آئے ہیں۔ ولہذا ہمیں بھی اپنے انھی بزرگوں کی پیروی میں آپ رضی اللہ عنہ کو ان القاب سے یاد کرنا چاہیے۔



شواہغ کے فرامین

اسلام کا دروازہ

ناقد الحدیث، امام حافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب خراسانی نسائی (متوفی 306ھ) سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے سائل کو بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا کہ

انما الاسلام كدار لها باب، فباب الاسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة انما اراد الاسلام، كمن نقر الباب انما يريد دخول الباب، قال: فمن اراد معاوية فانما اراد الصحابة۔

”دین اسلام ایک گھر ہے جس کا دروازہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، پس جو کوئی صحابہ کرام کو ایذا پہنچاتا ہے وہ گویا دین اسلام کا ارادہ کرتا ہے (یعنی دین اسلام کی ایذا کا ارادہ کرتا ہے) جیسے کوئی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو (ظاہر ہے) اندر داخل ہونے کے ارادے سے ہی کھٹکھٹاتا ہے، اسی طرح جو سیدنا معاویہ کی ایذا رسانی کا ارادہ کرتا ہے دراصل وہ صحابہ کی ایذا رسانی کا ارادہ کرتا ہے (جو کہ درحقیقت دین اسلام کی ہی ایذا رسانی ہے)۔“

(تاریخ دمشق، احمد بن شعیب بن علی.....، ج 71، ص 175، 176، رقم 9650-
مختصر تاریخ دمشق، احمد بن شعیب بن علی.....، ج 3، ص 103- تہذیب
الکمال فی اسماء الرجال، احمد بن شعیب بن علی.....، ج 1، ص 339، رقم 48-
عدالة الصحابة رضي الله عنهم في ضوء القرآن الكريم و السنة النبوية و دفع
الشبهات، ص 96، 118- کتابات اعداء الاسلام و مناقشتها، ص 793)

امام نسائی کا اسی مفہوم کا فرمان امام ابوالفضل قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی مکی

(متوفی 544ھ) نے بھی نقل کیا ہے۔ (انظر: ترتيب المدارك و تقريب المسالك، بقية شهادتهم له بالصدق و الثبات في الاثر، ج 1، ص 162)

امام ابو عمر کا معمول

زاہد محدث، امام اوحد ابو عمر محمد بن عبد الواحد بغدادی شافعی (متوفی 345ھ) کی سیدنا معاویہ سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے آپ ﷺ کے فضائل میں وارد احادیث مبارکہ پر مشتمل ایک جز تیار کیا، اور جو بھی طالب علم پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا آپ اسے جب تک وہ کتاب نہ پڑھا لیتے، کچھ نہ پڑھاتے تھے۔

و كان له جزء قد جمع فيه الاحاديث التي تروى في فضائل معاوية، فكان لا يترك واحدا منهم يقرأ عليه شيئا حتى يتدىء بقراءة ذلك الجزء، ثم يقرأ عليه بعده ما قصد له۔

(تاریخ بغداد، محمد بن عبد الواحد بن ابی ہاشم، ج 3، ص 618، رقم 1129)
آپ کے اس معمول کا تذکرہ حافظ ذہبی و حافظ ابن حجر نے بھی کیا ہے۔ [1]

(انظر: سير اعلام النبلاء، ابو عمر الزاهد، محمد بن عبد الواحد البغدادي، ج 15، ص 510، رقم 288- لسان الميزان، من اسمه محمد، محمد بن عبد الواحد.....، ج 5، ص 269، رقم 7771)

اللہ ان سے راضی ہو!

متقن، عابد و زاہد اور کثیر التصانیف بزرگ، متاخرین کے استاذ، لاحقین کے لیے حجت، شیخ الاسلام، حافظ الحدیث، امام محی الدین ابوزکریا یحییٰ بن شرف نووی شافعی

[1] اسی طرح شیخ ابوالحسن عبدالرحمن بن محمد تمیمی جوہری (متوفی 425ھ) کا معمول تھا کہ اتنی دیر تک کسی کو حدیث نہیں لکھواتے تھے جب تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کا عقیدہ نہ جان لیتے۔ (اگر آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کے عقائد وہی ہوتے جو اہل سنت کے ہیں تو اسے پڑھاتے ورنہ اعراض فرماتے)

(انظر: سير اعلام النبلاء، الجوہری عبد الرحمن بن محمد بن یحییٰ، ج 17، ص 415، رقم 277) (لغمان)

(متوفی 676ھ) فرماتے ہیں:

معاویة رضی اللہ عنہ فہو من العدول الفضلاء و الصحابة
النجباء رضی اللہ عنہ۔

”سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ عادل و صاحب فضیلت اور بزرگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
میں سے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو۔“

(المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، کتاب

فضائل الصحابة رضی اللہ عنہم، ج 15، ص 149)

بہترین صحابی

تبحر عالم و محدث، کثیر اوصاف حمیدہ کے مالک، انتہائی باعمل، امام کبیر شرف
الدین حسین بن محمد طیبی (بہ قول بعض شافعی) (متوفی 743ھ) فرماتے ہیں:

و اما معاویة؛ فہو من العدول الفضلاء، و من الصحابة
الخیار۔

”سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ عادل و صاحب فضیلت اور بہترین صحابہ میں سے ہیں۔“

(شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح (الکاشف عن حقائق السنن)،

باب مناقب الصحابة رضی اللہ عنہم اجمعین، ص 3840، ج 12)

یہ دروازہ بالکل بند کرو!

محدث و فقیہ، شیخ ابوالموہب عبدالوہاب بن احمد شعرانی شافعی (متوفی 973ھ)

فرماتے ہیں:

فمن طعن فی الصحابة فقد طعن فی نفس دینہ فیجب سد

الباب جملة واحدة لا سیما الخوض فی امر معاویة و عمرو

بن العاص۔

”جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن کرتا ہے بے شک وہ اپنے دین پر طعن کرتا ہے؛
لہذا ضروری ہے کہ یہ دروازہ بالکل بند کر دیا جائے بالخصوص سیدنا معاویہ
اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں۔“

(الیواقیت و الجواہر فی بیان عقائد الاکابر، المبحث الرابع و الاربعون
فی بیان وجوب الکف عن شجر بین الصحابة.....، ج 2، ص 323)

ان سے محبت کرو!

عظیم محدث، فقیہ اور صوفی، شیخ الاسلام، علامۃ الدھر، امام حافظ احمد بن محمد (ابن
حجر) مکی شافعی [1] (متوفی 979ھ) فرماتے ہیں:

و لا یشک احد ان معاویة رضی اللہ عنہ من اکابرہم نسبا و
قربا منه ^{صلی اللہ علیہ وسلم} و علما و حلما..... فوجبت محبته لہذہ
الامور التي اتصف بها بالاجماع۔

”بلاشبہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نسب، قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم اور حلم کے
اعتبار سے اکابر صحابہ میں سے ہیں..... پس ان اوصاف کی وجہ سے جو
آپ کی ذات میں بالاجماع پائے جاتے ہیں واجب و ضروری ہے کہ
آپ سے محبت کی جائے۔“

(تطہیر الجنان و اللسان عن الخطور و التفوہ بثلث سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، ص 3)

[1] امام ابن حجر ^{رحمۃ اللہ علیہ} کے علم و فضل کے بارے میں امام خفاجی ^{رحمۃ اللہ علیہ} نے کیا خوب فرمایا:

فکم حجت وفود الفضلاء لکعبۃ

و توجہت وجوہ الطلب الی قبلۃ

”آپ کے کعبہ علم کا فضلاء کے کتنے وفود نے حج کیا، اور اس کے قبلہ کی طرف طلب علم کے لیے متوجہ ہوئے۔“

(ریحانۃ الالباب و زہرۃ الحیاة الدنیا، العلامة شہاب الدین احمد بن حجر.....، ص 435)

ترتیب مراتب صحابہ

مشہور عاشق رسول علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی [1] تلمیذ شیخ ابراہیم سقا شافعی (متوفی 1350ھ) فرماتے ہیں:

لا يخفك ايها المؤمن العاقل المنصف انا انما نحب علياً
رضي الله عنه لله ورسوله، و كذلك نحب سائر اهل البيت
و جميع الاصحاب لله ورسوله، و لذلك كانت محبتنا لهم
لا على السوية، بل نفاضل بينهم بالمحبة بحسب درجات
فضلهم عند الله ورسوله على ما رواه لنا الائمة و تناقلته
الامة الخلف عن السلف، فنقدم ابا بكر ثم عمر ثم عثمان
ثم علياً ثم باقى العشرة المبشرين بالجنة، و من اكبرهم
الزبير و طلحة المؤهلان للخلافة بعد على و هما من
المهاجرين الاولين السابقين فى الاسلام ثم باقى اهل بدر و
من اكبرهم الزبير و طلحة، ثم اهل احد و من اكبرهم
الزبير و طلحة، ثم اهل بيعة الرضوان و من اكبرهم الزبير
و طلحة، ثم من اسلم قبل فتح مكة و من اكبرهم الزبير و
طلحة و منهم عمرو بن العاص، ثم من اسلم بعد الفتح و
منهم معاوية، قال الله تعالى: لا يستوى منكم من انفق من

[1] امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ خود تو کامل تھے ہی، آپ کے اہل بیت کے بارے میں قطب مدینہ سیدی ضیاء الدین مدنی (متوفی 1401ھ) فرماتے ہیں:

”حضرت یوسف نبہانی کی اہلیہ محترمہ کو چوراسی مرتبہ سرور کون و مکان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔“

(فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ جواہر البحار فی فضائل النبی المختار، ج 4، ص 13) (نقشان عقی عنہ)

قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من
 بعد و قاتلوا و كلا وعد الله الحسنی فمعاوية ممن وعدهم
 الله الحسنی، و هی الجنة، و هو ان كان من القسم الاخير
 من اصحاب رسول الله ﷺ و هو مفضل بالنظر الى
 الاقسام السابقة الا انه هو و جميع الصحابة ممن اسلم
 بعده ايضاً افضل من جميع من جاء بعدهم من هذه الامة
 المحمدية، ففضله من هذه الجهة اي جهة الصحبة وحدها
 اذا اعتبرته تجده عظيماً عظيماً الى درجة لا تقدر
 على تصورها لانك تعلم انه قد جاء في هذه الامة بعد
 الصحابة من اكابر الائمة و العلماء و الاولياء من لا يمكن
 استيفاء مناقبهم و فضائلهم بوجه من الوجوه، فمعاوية مع
 تاخره في الفضل عن معظم الصحابة هو افضل من التابعين
 و من بعدهم اجمعين، لتشرفه بصحبة سيد المرسلين صلى
 الله عليه و عليآه و صحبه اجمعين و كتابته له الوحي في
 بعض الاحيان، و جهاده معه اهل الشرك و الطغيان، فضلاً
 عما اتصف به في حد ذاته من الفضائل و المزايا الكثيرة، و
 خدماته بعد رسول الله ﷺ الخدمات الدينية المشكورة۔
 ”اے عاقل و منصف مومن! تجھ پر مخفی نہ رہے کہ بلاشبہ ہم سیدنا علی
 المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت صرف اللہ بمانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم تمام اہل بیت عظام اور
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محض اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا

کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کے ساتھ ہماری محبت ایک جیسی نہیں، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے درجات میں فرق ہے۔ (اسی طرح ہماری ان کے ساتھ محبت ہے) جیسا کہ ہمارے ائمہ نے بیان کیا، اور اسی کو خلف سلف سے نقل کرتے آرہے ہیں۔ ہم سیدنا ابو بکر صدیق کو تقدیم دیتے ہیں، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کو۔ پھر بقیہ عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کو جن میں سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہما اکابر ہیں، جو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کے بھی اہل تھے؛ یہ دونوں وہ مہاجر ہیں جو اسلام میں سابقین الاولین ہیں۔ پھر بقیہ بدری صحابہ، ان میں بھی سیدنا زبیر و طلحہ رضی اللہ عنہما بزرگ ہیں۔ پھر اہل احد ہیں، اور ان میں بھی اکابر سیدنا زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہما ہی ہیں۔ پھر بیعت رضوان کرنے والے، اور ان میں بھی سیدنا زبیر و طلحہ رضی اللہ عنہما اکابر ہیں۔ پھر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ان میں بھی سیدنا زبیر و طلحہ رضی اللہ عنہما بزرگ ہیں، اور انھی میں سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ پھر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور انھی میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔

(پارہ 27، سورۃ الحدید، آیت 10)

پس سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ اگرچہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ان

حضرات میں شامل ہیں جو ترتیب فضیلت میں آخری قسم ہے اور وہ اگرچہ پہلی اقسام سے افضل نہیں مگر آپ اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو آپ کے بعد مسلمان ہوئے ان لوگوں سے (بے شک) افضل ہیں جو ان کے بعد امت محمدیہ میں تشریف لائے۔ لہذا اگر ان کی اس جہت یعنی صحابیت کی وجہ سے فضیلت کو تنہا دیکھا جائے تو یہ بھی عظیم، عظیم، عظیم ہے اور اس درجہ (کی رفعت و بلندی) کا تصور بھی ہماری بساط سے باہر ہے۔ اس لیے کہ تم بہ خوبی جانتے ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد اس امت میں ایسے بزرگ ائمہ، علما اور اولیاء اللہ تشریف لائے جن کے فضائل و مناقب کا کسی طرح شمار ممکن نہیں۔ سو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگرچہ معظم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فضیلت میں کم سہی لیکن تمام تابعین اور ان کے بعد آنے والے تمام مسلمانوں سے بہر حال افضل ہیں کیوں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ اجمعین کی صحبت کا شرف آپ کو نصیب ہوا، بعض اوقات کتابت وحی کے فرائض سرانجام دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مشرکین اور سرکشوں سے جہاد کیا؛ یہ شرف ان فضائل کے علاوہ ہیں جو آپ کی اپنی ذات میں تھے، اور ان میں وہ خدمات دیدیہ و مشکورہ شامل نہیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سرانجام دیں۔“

(الاسالیب البدیعة فی فضل الصحابة و اقناع الشیعة مع شواہد الحق، فصل فی شؤون رؤساء الاصحاب الذین خالفوا علیاً رضی اللہ عنہ عنہم و ہم طلحة و الزبیر و معاویة و عمرو بن العاص، ص 399)

مجموعی اجر کے حق دار

علامہ نبہانی مزید فرماتے ہیں:

و معاوية مع فضل الصحبة له حسنات كثيرة لا تعد و لا
تحد من اجلها جهاده في سبيل الله اما بنفسه و اما بجيوشه
حتى فتحت بلاد كثيرة و صارت دار اسلام بعد ان كانت
دار كفر، و بسببه دخل الى الاسلام الوف الوف كثيرة ممن
اسلموا على يده و يد جيوشه و من ذراريهم الى يوم القيامة،
فله مثل حسناتهم اجمعين۔

”حضرت معاوية رضي الله عنه صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی
خوبیوں کے مالک ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا، ان میں سے عظیم تر خوبی یہ
ہے کہ انھوں نے بہ ذات خود یا اپنے لشکر کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کیا
جس کے نتیجہ میں بہت سی فتوحات ہوئیں، اور وہ علاقہ جات جو پہلے دائر
الکفر تھے دائر الاسلام بن گئے اور اس سبب سے لاکھوں کروڑوں لوگ
مشرف بہ اسلام ہوئے جو یا تو خود سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر یا ان کے
لشکر کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے اور پھر ان کی اولادیں قیامت تک
اسلام پر چلی آرہی ہیں (اور از روئے حدیث ان تمام نیکیوں کا مجموعی اجر
بھی حضرت امیر معاویہ رضي الله عنه کے نامہ اعمال میں ہی درج ہوگا)“ (ایضاً، ص 402)

خلاصہ

یہ تھے صحابہ و تابعین اور ائمہ مسلمین کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمودات جنہیں ملاحظہ کرنے کے بعد ایک منصف مزاج ”مسلمان“ قاری کے لیے یہ متعین کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ: سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟

اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے رشتہ دار اور صحابی ہیں جن کی طرف اللہ عز و جل غزوہ تبوک میں اپنی رحمت سے متوجہ ہوا۔

اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہادی و مہدی، حساب و کتاب کا عالم بننے اور عذاب سے محفوظ رہنے کی دعائیں فرمائیں؛ اور یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ قیامت کے سخت دن میں بھی جن کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع نہیں ہوگا۔

جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم فرمایا کرتے: آپ فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد بہترین حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے، حکومتی معاملات میں اہلیت رکھنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، آپ جیسا کوئی سردار نہیں دیکھا گیا، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم تھے، (بعض صحابہ یہ بھی فرمایا کرتے کہ اے لوگو!) حضرت معاویہ کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ ہی کرو کیوں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے سنا ہے۔

اسی طرح **تابعین** کہا کرتے: ہماری نظر سے سیدنا معاویہ سے بڑا حلیم، جہالت

سے دور اور باوقار آدمی کوئی نہیں گزرا، سیدنا معاویہ ایسے تھے کہ اگر تم لوگ انھیں دیکھ لیتے تو کہتے: یہ تو مہدی ہیں؛ جو آپ کے لیے رحمت کی دعا کرے خدا پر حق ہے کہ اس کے حساب میں سختی نہ فرمائے، اور جو بد بخت آپ کو جہنمی کہے اس پر اللہ کی پھٹکار! آپ تو ایسے تھے کہ اگر لوگ آپ کو دیکھ لیتے تو عمر ثانی سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف کو بھول جاتے۔

تبع تابعین فرمایا کرتے: اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جو گردوغبار سیدنا معاویہ کے ناک میں داخل ہوتا تھا وہ بھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے ہزار درجہ افضل ہے (کیوں کہ حضور ﷺ کی زیارت وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کا مقابلہ بڑی سے بڑی کوئی نعمت بھی نہیں کر سکتی)، سیدنا معاویہ حضور کے برادر نسبتی اور وحی الہی کے امین تھے، آپ کی ذات گرامی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے پردے کی حیثیت رکھتی ہے۔

علمائے احناف کہتے: سیدنا معاویہ عادل، فاضل، اختیار اور اجلہ صحابہ کرام میں سے تھے، بے شک آپ کبار صحابہ اور مجتہدین میں سے ایک تھے، لیکن اگر آپ کو صغار صحابہ میں بھی تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی آپ ان تمام احادیث صحیحہ میں داخل ہیں جو صحابہ کرام کی مدحت میں وارد ہوئیں۔ جو آپ پر طعن کرتا ہے درحقیقت اپنے دین پر طعن کرتا ہے، اور ایسا شخص جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے؛ لہذا تم کبھی آپ رضی اللہ عنہ کی بدگوئی میں مبتلا نہ ہونا ورنہ تم فعل حرام کے مرتکب ہو گے۔ جو کوئی تاریخی روایات وغیرہ کی آڑ لے کر آپ کی ذات اقدس پر طعن کرتا ہے وہ مریض القلب، نفاق شعار، بد مذہب اور دشمن حق مبین ہے یا پھر پاگل و مجنون۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گستاخ اس قابل نہیں کہ اسے نماز میں مسلمانوں کی امامت سوچی جائے، بلکہ اسے امام بنانا حرام و گناہ ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ ذات والا صفات ہے جسے سلطنت محمدیہ کا پہلا بادشاہ ہونے کا شرف حاصل ہے اور آپ کی بادشاہت کا تذکرہ تو رات متقدس میں بھی گزرا۔

امام مالکیہ کے نزدیک: سیدنا معاویہ کی بدگوئی کرنے والا اگر حد سے تجاوز کرے تو اسے قتل کر دیا جائے بہ صورت دیگر سخت ترین سزا دی جائے، اور اس حکم میں ان کے ساتھ علمائے احناف و شوافع کا بھی اتفاق ہے۔

امام حنابلہ فرمایا کرتے: ہم سیدنا علی پاک و سیدنا معاویہ پاک کے بارے میں اچھی بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، جو آپ سمیت کسی بھی صحابی کی برائی کرتا ہے ہم اس کے اسلام کو ہی مشکوک سمجھتے ہیں، سیدنا معاویہ کی برائی وہی کرتا ہے جس کا باطن گندہ ہوتا ہے، جو آپ کی تنقیص کرے وہ اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے اگرچہ رشتے میں وہ ماموں ہی کیوں نہ ہو، ہم آپ کے برابر کسی بھی غیر صحابی کو نہیں سمجھتے، جو کوئی آپ پر غیر صحابی کو فضیلت دیتا ہے اس کے پاس بیٹھنا، کھانا، پینا سب کچھ ترک کر دو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت بھی نہ کرو! سیدنا معاویہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی مبارک پیشانیوں پہ لگے سجدوں کے نشان کی رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں تعریف فرمائی، آپ تمام ایمان والوں کی ماں سیدہ اُمّ حبیبہ کے بھائی ہونے کی بنا پر اہل ایمان کے ماموں ہیں اور آپ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے۔

علمائے شوافع کے نزدیک: جو سیدنا معاویہ کی ایذا کا ارادہ کرتا ہے وہ صحابہ کو اور ان کے ذریعے دین اسلام کو ایذا دینے والا موذی ہے۔ بعض ائمہ شوافع تو سیدنا معاویہ کا بہ وجہ صحابیت اس قدر احترام کرتے کہ جب کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا تو سب سے پہلے اسے سیدنا معاویہ کی شان و عظمت پر دال احادیث مبارکہ پڑھاتے، بعد ازاں دیگر علوم و فنون۔ اور بعض بزرگ تو اس وقت تک کسی کو حدیث پاک پڑھاتے ہی نہیں تھے جب تک یہ نہ جان لیتے کہ وہ سیدنا معاویہ کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتا ہے یا سو۔ اور فرمایا کرتے: سیدنا معاویہ عادل و صاحب

فضل اور بہترین صحابی ہیں، بلاشبہ علم و حلم اور قرب مصطفیٰ کی بنا پر بزرگ صحابہ میں سے ہیں، اور یہی وہ اوصافِ عالیہ ہیں جن کی وجہ سے آپ کی محبت (مسلمانوں) پر واجب ہے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ باری تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا، اور بڑے سے بڑا ولی (چاہے وہ غوث، قطب، ابدال ہی کیوں نہ ہو) سیدنا معاویہ پاک کی ہرگز ہم سری نہیں کر سکتا؛ آپ نے اور آپ کے لشکروں نے جو ممالک فتح کیے اور وہاں لا تعداد لوگوں کو مسلمان کیا یا ان کی برکت سے لا تعداد لوگ مسلمان ہوئے ان تمام کی، تمام نیکیوں کا ثواب (بہ مطابق حدیث) قیامت تک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نامہ اعمال میں بھی درج کیا جائے گا۔ الغرض سیدنا معاویہ ایسی بے شمار خوبیوں سے متصف ہیں۔ رضی اللہ عنہ

منظوم خلاصہ

سدرہ کی لادے شاخ اک سدرہ نشیں مجھے
پھوٹی ہے دل میں آرزو مدح امیر کی
مامور ہوں میں لکھنے پہ شان معاویہ
نوکِ قلم سے لکھنے کے قابل نہیں تھی یہ
مقدور ہو تو نوکِ مژہ سے رقم کروں
میں اور مدح منشی دربارِ مصطفیٰ
ایماں گنوار ہی ہے عداوت میں تیری خلق
حضرت معاویہ ہیں پیارے حضور کے
امت کے ہیں یہ ماموں مکرم و محترم
گاڑا ہے خوب ٹونے اے سلطانِ محتشم!
دے کر خطاب ہادی و مہدی رسول نے
بہر قلم یہ چاہیے رُوحِ الٰہ میں مجھے
قرطاس پہ پرونے ہیں ہاں کچھ نگیں مجھے
اُکسا رہا ہے مدح پہ سدرہ مکیں مجھے
دامانِ ریختہ میں جو دکھتی نہیں مجھے
لگتا ہے تذکرہ ترا اتنا حسین مجھے
سو جھائے گویا خاک پر عرش بریں مجھے
رہ رہ غم کیے ہے یہ اندوہ گیں مجھے
کاتب ہیں ذی وقار ہمارے حضور کے
ذی قدر و ذی وجاہت و ذی جاہ و ذی حشم
آماج گاہ کفر میں اسلام کا علم
شاہی کی تیرے حق میں دعا کی رسول نے

مسند ملی ہے تجھ کو یہ ابن رسول کی
لعنت تیرے عدو پہ خدا کی مدام ہے
بہن اس سے کیا موازنہ ہو چشمِ حور کا
پرچم وہاں پہ فوز و فلاح اپنے گاڑ دے
میری بھی تیرہ بختی کو لہ سنوار دے
ہو دیکھنا اگر تیرے لطف و عطا کا حال
توریت میں بھی تیرا رقم کیف و حال ہے
تو فیض یاب بارگہ مصطفیٰ سے ہے
لکھی ہے خوب حضرت لقمان نے کتاب
ہر صفحہ ہر سطر میں عقیدت کے یہ گلاب

سیط علی کی گلشن زہرا کے پھول کی
حاسد پہ تیرے خلد کی نعمت حرام ہے
جس آنکھ نے کیا ہو نظارا حضور کا
صاحب رسول کا جہاں بنی کو جھاڑ دے
تھوڑا سا نقش پا کا ہمیں بھی غبار دے
پوچھے عقیل سے تیرے جو دوسخا کا حال
قرآن تیری عظمت و رفعت پہ دال ہے
راضی خدا ہے تجھ سے ثوراضی خدا سے ہے
پر مغز و پر معانی و پر حکمت و صواب
ان ہستیوں کی نذر جو ہیں رشکِ آفتاب

از: - شاعر اہل سنت، حضرت سفیر احمد سفیر علوی
امیر مرکزی جماعت اہل سنت ضلع ہری پور

ہدایت یافتہ کے لیے بس!

اگرچہ موضوع سے متعلقہ مزید آیاتِ طیبہ، احادیثِ نبویہ اور اقوالِ ائمہ پیش کیے
جاسکتے ہیں مگر مناسب ہے کہ اس پر ہی اکتفا کیا جائے (بہ قول امام ابن حجر قدس
سرہ) ”لانه من منح ہدایۃ یکفیه ادنی برہان و من لا ینجع فیہ لا ینجع
فیہ سنۃ و لا قران۔“ کیوں کہ جسے رب تعالیٰ ہدایت دے اس کے لیے ادنیٰ
دلیل بھی کافی ہے، ورنہ قرآن و سنت بھی ناکافی۔

و اللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم۔
تم بحمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ

ملکی قوانین

معزز قارئین! کتاب ہذا کی تکمیل تو ہو چکی ہے، مگر یہ چند اضافی معروضات ہیں، اگر بارِ خاطر نہ ہو تو انہیں بھی ملاحظہ فرمائیں!

دُنیا بھر میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے متعدد ممالک کے سربراہوں نے (امن عامہ میں خلل کے پیش نظر) اپنی اپنی سمجھ کے مطابق مذہب اور مذہبی راہ نماؤں کی توہین کو قابلِ سزا جرم قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ویب سائٹ:

http://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemy_law

چوں کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ بہ شمول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تمام اہل اسلام کے دینی پیشوا ہیں، اس لیے ضروری تھا کہ ان کی توہین و تنقیص کرنے والے کی سزا کا جو فیصلہ ”ائمہ اسلام علیہم السلام“ [1] کر چکے ہیں، ہر اسلامی ریاست میں اسی کے مطابق عمل درآمد ہوتا؛ تاکہ اُخروی سرخ رُوئی کے ساتھ امن کی فضا بھی مگر نہ ہوتی۔ لیکن دین سے دوری اور یہود و نصاریٰ سے قرب کے باعث جہاں دیگر اسلامی تعزیرات کا نفاذ فی زمانہ مفقود نظر آتا ہے ان سزاؤں کو بھی کس پرسی کا سامنا ہے؛ البتہ بعض ممالک میں کچھ ”ملکی قوانین“ ایسے بھی ہیں جن کے تحت گستاخانِ صحابہ و اہل بیت علیہم السلام و علیہم الصلوٰۃ و السلام کو سزا دی جاتی ہے مثلاً:

دفعہ 298.A

ملک پاکستان جس کی کل آبادی ایک سروے کے مطابق تقریباً

[1] جو کہ یقیناً عقل و سمجھ کے اعتبار سے بھی دنیا بھر کی تمام قوموں کے سربراہوں پر فائق ہے۔

172,800,000 ہے۔

(en.wikipedia.org/wiki/List_of_Muslim-majority_countries)

اس کے مجموعہ تعزیرات میں دفعہ 298.A کے تحت ہے کہ جو کوئی پیغمبر پاک ﷺ کی کسی بیوی یا ان کے ارکان کنبہ یا راست باز خلیفوں (خلفائے راشدین) میں سے کسی کی یا پیغمبر پاک (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و اصحابہ و سلم) کے ساتھیوں (صحابہ کرام، بہ شمول سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم) کی الفاظ سے، چاہے زبانی ہوں یا تحریری یا ظاہری اشاروں یا اہتمام، طعن زنی یا درپردہ تعریض سے، بلا واسطہ یا بالواسطہ بے حرمتی کرے اسے دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد تین برس تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں۔

شرح

مقصد: دفعہ ہذا کا مقصد خلفائے راشدین، صحابہ، پیغمبر پاک کی کسی بیوی یا ارکان کنبہ (رضی اللہ عنہم) کی کسی طریقہ سے بے حرمتی یا توہین کو مستوجب سزا ٹھہرانا ہے۔ دفعہ 298.A تعزیرات پاکستان مقدس اور قابل احترام شخصیات کے خلاف نازیبا الفاظ کے بارے میں ہے اور اس کا اطلاق اُمّ المؤمنین یا دیگر اہل بیت کی خواتین (رضی اللہ عنہن) پر بھی ہے۔ مزید برآں اس کا اطلاق خلفائے راشدین اور صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) پر بھی ہوتا ہے۔ دفعہ 298.A میں ان شخصیات کا خصوصی طور پر ذکر نہیں جن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

(مجموعہ تعزیرات پاکستان، مذہب کے متعلق جرائم، معزز اشخاص کی نسبت توہین آمیز رائے زنی، باب 15، ص 326- مجرایکٹ (کریمنل) مذہب سے متعلق جرائم کے بارے میں، مقدس شخصیتوں کے بارے میں تقلیبی فقرے وغیرہ کہنا (باب 15، ص 477, 478))

یہاں یہ بات بھی مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ دفعہ 298.A جس پر لاگو ہوتی ہے

اسے بلا وارنٹ گرفتار کیا جاسکتا ہے اور یہ مقدمہ قابلِ راضی نامہ بھی نہیں ہوتا۔

(میجر ایکٹ، ص 320.C)

مثلاً: کسی نے معاذ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہے اور کسی مسلمان نے سن لیے اور تھانے رپورٹ کر دی تو قانوناً پولیس مجرم کو بلا وارنٹ گرفتار کرنے کی مجاز ہے۔ اور اس معاملہ میں راضی نامے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔

کویت میں پاس ہونے والا قانون

اسی طرح کویت جس کی کل آبادی تقریباً 33,996,37 ہے، میں اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گستاخی پر طویل جیل اور بھاری جرمانے پہلے سے ہی موجود تھے لیکن حال ہی میں کویت اسمبلی نے مزید ایک قانون پاس کیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے:

Friday, April 13th, 2012 at 12:31 am

Kuwait's parliament OKs death penalty for insulting Prophet Muhammad

Kuwait's National Assembly on Wednesday voted overwhelmingly in favor of amendments to the country's penal code to apply the death penalty for those who insult Islam's Prophet Muhammad or his wives, a local newspaper reported on Thursday.

Forty-six members of parliament, including all cabinet ministers, voted in favor of the controversial amendments during the first round of voting on Wednesday. Four Shiite members of parliament opposed the amendments, two MPs refused to vote, and one Sunni MP abstained from voting.

According to the Kuwait Times, the amendments call for the death penalty for those who insult the Prophet Muhammad

and his wives. It also stipulates a life-term sentence for anyone who insults the Prophet Muhammad's companions, although the report did not specify what would be deemed an insult.

The amendments still need approval during a second round of voting, which is expected to take place by the end of April, and approval from the government. Wednesday's vote took place after heated debates between Sunni MPs, who promoted the bill, and Shiite MPs who insist highly revered Imams must be included in the law.

Kuwait's penal code, of which aspects are based on Sharia law, already imposes hefty penalties, including lengthy jail terms, for those who insult the Prophet Muhammad, his wives, or his companions. Kuwait also imposes hefty penalties against other religious offenses.

According to human rights organization Amnesty International, no executions have been recorded in Kuwait since 2007, but at least seventeen people were sentenced to death for murder and drug-trafficking last year.

کویت کی پارلے منٹ نے سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی توہین کی سزا موت مقرر کر دی ہے، بدھ کے روز کویت کی قومی اسمبلی نے بھاری اکثریت سے قانون منظور کیا جس میں رسول اللہ ﷺ کی آپ کی ازواج مطہرات کی توہین کرنے والے کے لیے سزائے موت کی منظوری دی گئی ہے۔ کابینہ کے وزیر اسمیت چھیا لیس اراکین پارلے منٹ نے اس تنازعہ ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، چار شیعہ ممبران نے ترمیم کی مخالفت کی، دو ممبران نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا؛ ایک سنی ممبر پارلے منٹ نے ووٹ

دینے سے اجتناب کیا۔ کویت ٹائمز (اخبار) کے مطابق اس ترمیم میں رسول اللہ ﷺ اور آپ کی ازواج پاک کی گستاخی کرنے والے کے لیے موت کی سزا کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس میں حضور ﷺ کے صحابہ کی توہین کرنے والے کے لیے عمر قید کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اگرچہ اس رپورٹ میں توہین کا مطلب واضح نہیں کیا گیا، اس ترمیم کی ابھی دوسرے راؤنڈ میں منظوری ہونا باقی ہے، بدھ کے روز ہونے والی منظوری میں سنی ممبران جنھوں نے بل پیش کیا تھا کے ساتھ گرم بحث ہوئی جس میں شیعہ ممبران پارلے منٹ کا اصرار تھا کہ قانون میں انتہائی محترم ائمہ کو بھی شامل کیا جائے۔ کویت کے قوانین جن کی بنیاد شریعت قوانین پر ہے پہلے ہی حضور سید عالم ﷺ، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گستاخی پر بھاری جرمانے اور طویل جیل کی سزا مقرر ہے، کویت میں دوسرے مذہبی جرائم کی بھی بھاری سزائیں مقرر ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 2007ء سے اب تک کوئی عدالتی حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا مگر قتل اور منشیات کی سمگلنگ کے جرم میں گزشتہ سال کم از کم سترہ لوگوں کو سزائے موت دی گئی۔

([http://newstro.com/article/kuwaits-parliament-oks-d\)eath-penalty-for-insulting-prophet-muhammad.html](http://newstro.com/article/kuwaits-parliament-oks-d)eath-penalty-for-insulting-prophet-muhammad.html))

یہ تو تھی پہلے راؤنڈ کی تفصیل، اس کے بعد کویت میں شائع ہونے والے اخبار ”کویت ٹائمز“ نے یہ خبر شائع کی کہ قانون {BLASPHEMYLAW} کو اسمبلی نے فائنل کر لیا ہے۔

(<http://news.kuwaittimes.net/2012/05/02/probe-panel-to-hear-premiers-testimony-panel-finalises-blasphemy-law/>)

نیز تقریباً ایک ماہ تک یہ قانون امیر کے SIGN کے ساتھ کتابی شکل میں بھی آجائے گا۔

(<http://religionclause.blogspot.com/2012/05/kuwaits-parliament-passes-new-blasphemy.html>)

تقاریظ

جامع العلوم، نایب الفہوم، شیخ الحدیث

علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی زید مجددہ

استاذ الحدیث جامعہ ہجویریہ

مرکز معارف اولیاء دربار عالیہ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات سے آگاہ فرمایا، اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت شان کو واشگاف الفاظ میں واضح فرما کر ان دونوں قسم کے نفوس قدسیہ کی عزت و احترام کا درس دیا۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے بارے میں ارشاد فرمایا:

انی تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى احدهما
اعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء الى
الارض و عترتى اهل بيتى و لن يتفرقا حتى يردا على
الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما۔

(مشکوٰۃ المصابیح، باب مناقب اہل بیت، ص 569)

”میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑا تو میرے بعد ہرگز گم راہ نہیں ہو گے، ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ با عظمت ہے۔ ایک اللہ کی کتاب (قرآن مجید) ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکنے والی رشتی ہے اور میری عترت (یعنی) میرے اہل بیت، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض پر آئیں گے، پس دیکھو میرے بعد تم ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو۔“

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ارشاد فرمایا:

لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ
مد احدہم و لا نصیفہ۔

(مشکوٰۃ المصابیح، باب مناقب الصحابة، ص 553)

”میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو! پس اگر تم میں سے کوئی ایک اُحد (پہاڑ) کی مثل سونا خرچ کرے تو ان کے (خرچ کیے گئے) ایک مد (تقریباً ایک کلو) اور نہ ہی اس کے نصف کے برابر ہو سکتا ہے۔“

بنا بریں اُمتِ مسلمہ پر لازم ہے کہ وہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بلا امتیاز محبت کرے، ان کی تعظیم کرے اور ان کی حیات ہائے مبارکہ کو اپنے لیے مشعلِ راہ بنائے اور ان کے درمیان مشاجرات کو نظر انداز کرے۔

حضرت علامہ مولانا قاری محمد لقمان زبید مجددہ خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے عظمت صحابہ و اہل بیت، اور ان کے درمیان مشاجرات اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں تحقیق پر مبنی کتاب مستطاب ”من ہو معاویہ؟“ (معاویہ کون؟) مرتب فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ راقم نے جب اس کتاب کو پڑھا اور اس سے پہلے مؤلف موصوف کی کتاب ”مولودِ کعبہ کون؟“ کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ حضرت مولانا قاری محمد لقمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے میدان تحقیق کا شاہ ہنوار

بنایا ہے۔ آپ نے نہایت مثبت انداز میں اس اہم موضوع پر خامہ فرسائی کی۔ ان کی تحریر میں کہیں بھی جذباتیت، غیر سنجیدگی اور تفرقہ بازی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ راقم کے خیال میں یہ کتاب گم گشتگانِ راہ کے لیے نہایت عمدہ مشعل ہے اور ہدایت کے درتپے کھولتی ہے۔ بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن و سنت سے لے کر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین تک کے اقوال مبارکہ جس قدر جمع کیے گئے ہیں کسی بھی معتدل مزاج شخص کے لیے اس سے راہ فرار ممکن نہیں۔

حضرت علامہ قاری محمد لقمان صاحب کی شخصیت ہمارے نوجوان فضلا کے لیے ایک قابل تقلید شخصیت ہے اور یقیناً یہ کتاب شعبہ تحقیق میں کام کرنے والوں کے لیے تحقیق کے حوالے سے بھی راہ نما ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مصنف کے لیے ذریعہ نجات اور قارئین کے لیے وسیلہ رشد و ہدایت بنائے! آمین ثم آمین!

4 رجب المرجب 1433ھ / 26 مئی 2012ء، بہ روز ہفتہ



حامی سنت، ماحی بدعت، شیخ الحدیث والتفسیر

علامہ مولانا غلام رسول قاسمی مدظلہ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد الانبياء و
المرسلين و على اله و اصحابه اجمعين۔

بدگمانی تاریخ انسانیت میں فساد کی ایک بہت بڑی جڑ ہے، ایک عام مسلمان
کے بارے میں بھی حسن ظن واجب ہے چہ جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے حق میں ”و
لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا“ کہتے رہنے کی ذمہ داری بعد والوں کو
سونپی گئی ہے۔

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کی فوج سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان گروہ قرار
دیا ہے۔ (بخاری، رقم 2704)

یہی اس لشکر کے سالار تھے جس پر جنت واجب ہے۔ (بخاری، رقم 2788)
انہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی: اے اللہ! معاویہ کو ہدایت دینے
والا، ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ (ترمذی، رقم 3842)
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ (مسلم، رقم 6409)

خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میری طرف سے قتل ہونے والے اور معاویہ
کی طرف سے قتل ہونے والے سب جنتی ہیں۔ (المعجم الكبير، رقم 16040)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یہاں کچھ لوگ ہیں جو
حضرت معاویہ کو جہنمی کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی ان پر لعنت ہو انھیں کیا خبر

کون جہنمی ہے۔ (الاستیعاب، ص 679)

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لوگ نہ مانگتے تو ان پر آسمان سے پتھر برسائے جاتے۔ (المعجم الکبیر، رقم 120)

رجالہ رجال الصحیح۔

خودروافض کی کتابوں میں ہے: سیدنا علی کریم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم انھیں کافر سمجھ کر ان سے جنگ نہیں لڑتے اور نہ ہی یہ ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں بل کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم حق پر ہیں اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ حق پر ہیں۔

(شیعہ کتاب: قرب الاسناد، ج 1، ص 45)

الحمد للہ اہل سنت کچی گولیاں نہیں کھیلتے، ان کے دلائل کے سیلاب کے سامنے کوئی دو ٹانگوں والا نہیں ٹھہر سکتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع دراصل ناموس رسالت کو مستلزم ہے۔

حضرت علامہ محمد لقمان صاحب نے اس کتاب ”من هو معاویہ؟“ میں بڑی محنت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی کا حق ادا کیا ہے، اللہ کریم جلد بتانہ آپ کی اس کاوش کو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید اسلامی عقائد کا دفاع کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے! آمین!

11 رجب المرجب 1433ھ (سرگودھا)

صاحب تصانیف، نظیف و لطیف

شیخ الحدیث علامہ مولانا مفتی غلام حسن قادری مدظلہ

مفتی: دارالعلوم حزب الاحناف، لاہور

شیخ الحدیث: جامعہ رضویہ ماڈل ٹاؤن، لاہور

سرپرست اعلیٰ: تحریک دعوت حق پاکستان

بڑی مشکل سے بھیجتا ہے ساتی ایسا ستانہ

بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور سے خانہ

بڑے عرصے کے بعد ایک ایسی کتاب پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے کہ اگر اس کو اپنے موضوع پر حرفِ آخر کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، اتنی مختصر کتاب میں اس قدر نایاب عربی کتب کے نہایت ہی معتبر حوالے نہیں نے بہت کم کتابوں میں دیکھے ہیں۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور یہ بھی بات سچی ہے کہ: واللہ لا یھدی القوم الظالمین۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت عرصہ بعد کسی مردِ حق نے اس موضوع کے لیے مضبوط بنیادوں پر قلم اٹھایا ہے، جب کہ رافضی تو جائیں جہنم میں، خود ہمارے نام نہاد سنتیوں، بہ زعم خویش پیروں اور عاقبت نااندیش سیدوں نے حال المؤمنین، کاتب وحی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات والاصفات کے ساتھ وہ رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ الامان والحفیظ۔ بلاشبہ رافضیت کی گود میں پلنے والے ان نام نہاد سنتیوں کی اصلاح کے لیے سخت اقدام ہی کرنا چاہیے تھا۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ حضرت مولانا قاری محمد لقمان صاحب زید مجدد نے کر دیا ہے۔

اب جس کے دل میں آئے پائے وہ روشنی

”اس“ نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا

میں مصنف موصوف کی جراتِ مردانہ کو داد دے بغیر نہیں رہ سکوں گا، خراجِ تحسین اور سلامِ عقیدت ہے اس مردِ حق کی خدمت میں کہ جس نے بلا خوفِ لومتِ لائم اپنا فرض منصبی بڑے ہی احسن و عمدہ پیرائے میں ادا کر دیا ہے، ایسے ہی جواں ہمت، جواں سال، جواں بخت باعمل، باکردار، صالح لوگوں کے بارے میں کسی نے کہا ہے:

ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو

استلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے

اور میں بغیر کسی چا پلوسی یا خوف کے علی وجہ البصیرت حضرت مصنف کے بارے

میں کہہ سکتا ہوں:

جن کو مل کر زندگی سے پیار آ جائے وہ لوگ

آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں

23 مئی 2012ء



عالم نبیل، فاضل جلیل

علامہ مولانا مفتی ابوطیب محمد عبدالشکور الباروی زید علیہ

حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے تمام عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا۔

حضرت قاری محمد لقمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کتاب ”من ہو معاویہ؟“ تصنیف کی ہے، موصوف نے تحقیق کا حق ہی ادا نہیں کیا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت اور ان کی عبقریت ایسے جامع اور منفرد انداز میں بیان کی ہے کہ پڑھنے والے منصف مزاج کے لیے اقرار و اعتراف کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا۔

ہمارا اجمالی عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق یہ ہے کہ زمین و آسمان کی نگاہوں نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد ان سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ انسان نہیں دیکھے۔ حق و صداقت کے اس مقدس قافلے کا ہر فرد اتنا بلند کردار اور انسانیت سے اس قدر دور تھا کہ انسانیت کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے؛ اس لیے کہ قرآن کریم میں مومنوں کی جتنی صفات اور اخلاق بیان کیے گئے اور ان کے لیے جتنی بھی بشارتیں ذکر کی گئیں وہ ساری بشارتیں اور صفات سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ثابت ہوں گی بعد میں کسی اور کے لیے۔

اور انھی صحابہ میں سے ایک ذات جناب سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی ہے، جنہوں نے اسلامی ریاست کی توسیع و ترقی اور دنیا میں اسلام کے غلبہ اور استحکام کے لیے بہترین خدمات سرانجام دی ہیں۔ موجودہ حالات کے مطابق حضرت امیر

معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب اور دفاع میں قلم اٹھانا، اور احقاق و تحقیق کی راہ اور افراط و تفریط کے کانٹوں سے اپنے دامن کو الجھائے بغیر ساحل مراد پر پہنچنا آسان کام نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسی شان کے مالک ہیں جنہیں دربار مصطفویہ ﷺ سے ہادی، مہدی اور ذریعہ ہدایت کی دعاؤں کے تحائف ملتے رہے، زبان نبوت سے ان کے فضائل بیان ہوتے رہے۔

اس مختصر تحریر میں کتاب کے محاسن پر گفتگو کی گنجائش نہیں، بس یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب لا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو حسن قبولیت عطا فرمائے اور مولف کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور مخلوق خدا کو اس سے خوب فائدہ پہنچے۔ آمین بجاہ
سید المرسلین!



باہر الفضائل، طاہر الشمائل

حضرت علامہ مولانا منشا تاش قسوری دام ظلہ

صدر شعبہ فارسی جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور

اہل بیت اور اصحابِ مصطفیٰ کی محبت عین حب رسول ہے اور ان سے دشمنی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے مترادف ہے، مگر بعض لوگ بڑے لطیف پیراے میں حُبِ اہل بیت کے پردہ میں اہل بیت سے دشمنی اختیار کیے ہوئے ہیں، کیوں کہ وہ مدوحینِ اہل بیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شانِ اقدس میں غلیظ الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، زبان و قلم سے ان کا یہ وظیفہ شعار بن چکا ہے۔

امتِ مصطفیٰ میں اہل بیت رضی اللہ عنہم کی جتنی تعریف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمائی اس کی مثال ناممکن ہے، اور اصحاب رسول کے جو اوصاف اہل بیت نے ارشاد فرمائے ان کی تمثیل بھی محال ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایمان و اسلام کے لیے ان کا وجود جزو ایمان اور معیار قرار دیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں کتاب و سنت ناطق ہیں، فضائل و مناقب سے کتب تاریخ پُر ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام کو گالی دینا، بے ادبی اور گستاخی کرنا، انھیں توہین و تنقیص کا نشانہ بنانا حرام و کفر ہے؛ جو ایسا کرے وہ ملعون و مفتری اور کذاب ہے۔ اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہے کہ

وہ کفر و ضلال پر تھے، وہ کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ (شفاء قاضی عیاض)

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ کرے وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔

(النار الحامیة: مولانا نبی بخش حلوانی)

حضرت امام ابو زرہ رازی فرماتے ہیں کہ: جو اصحاب رسول کی شان میں گستاخانہ الفاظ بولے وہ زندیق ہے کیوں کہ خدا اور رسول اور قرآن و احکام شریعت حق ہیں لیکن ہم تک سب چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بغیر نہیں پہنچیں، پس جو ان پر جرح کرتا ہے اس کا مقصد کتاب و سنت کے مٹانے کے سوا اور کچھ نہیں، پس درحقیقت شاتم صحابہ کرام ہی زندیق، گم راہ، کاذب اور معاند ہے۔ (مکتوبات امام ربانی)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا: عن قریب ایک ایسی قوم نکلے گی جسے لوگ رافضی کہیں گے تم انھیں جہاں پاؤ ان سے دور رہنا! آپ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کی کیا علامت ہے؟ فرمایا: وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیتی ہوگی۔ (البصائر المسلول، ص 583، ابن تیمیہ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ کو گالیاں دے کر مجھے ایذا نہ پہنچاؤ، جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے انھیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ پس جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا قریب ہے کہ اللہ اسے گرفتار عذاب کرے گا۔

(ترمذی شریف، کتاب الروح لابن قیم)

حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ "مدارج النبوت" جلد اول میں رقم فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی امیہ کی حکومت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولایت کی خبر دی اور فرمایا: معاویہ! آخر عمر میں تم امت کے حاکم بنو گے اور جب تم حاکم بنو تو نیکوں کی صحبت اختیار کرنا اور بروں سے دور رہنا! حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں: مجھے اسی دن سے اُمید تھی کہ میں حکومت کروں گا۔ مواہب لدنیہ میں ابن عساکر سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: معاویہ! تم کبھی مغلوب نہ ہو گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے جنگ صفین کے دن یہ بات سنی تو فرمایا: اگر میں اس حدیث کو پہلے سنتا تو ہرگز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ نہ کرتا۔

زیب نظر تصنیف لطیف ”من هو معاویہ؟“ حضرت مولانا علامہ حافظ محمد لقمان صاحب زید علمہ و عملہ نے نہایت محنت اور محبت سے قلم بند فرمائی ہے جو کہ اہل علم و قلم کے لیے نہایت کارآمد ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی بلند مرتبت شخصیت کو ایمان افروز تحقیق سے متحقق فرمایا ہے۔ اہل علم سے مخفی نہ رہے جیسے قابیل کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پر حرف زنی ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے، ایسے ہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یزید کی وجہ سے نشانہ طعن بنانا رشتہ ایمان کٹ جانے کا باعث ہے۔

بہ ہر حال حضرت علامہ نے بڑے احسن پیرایہ میں کتاب مستطاب کو مزین فرمایا ہے جو کہ لائق مطالعہ اور قابل تحسین ہے۔ اللہ کرے موصوف کی یہ کاوش قبولیت کا شرف پائے! آمین ثم آمین!

8 رجب المرجب، چہار شنبہ، 1433ھ / 30 مئی 2012ء



مناظر اسلام، برکتہ الانام

حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نوری قادری زید مجیدہ

خطیب: مرکزی جامع مسجد شرقیہ رضویہ، بیرون غلہ منڈی، ساہی وال

محقق العصر، عمدۃ العلماء والفصلا، بحر العلوم، کاشف الحقائق، ترجمان اہل سنت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت، ناقدین رجال، جامع معقول و منقول، حضرت علامہ مولانا مفتی قاری محمد لقمان صاحب زید مجیدہ الکریم کا رسالہ عجالہ نافعہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، ماشاء اللہ مولف نے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، اپنی تحریروں پذیر کو قرآن و احادیث و آثار اور اقوال ائمہ دین سے مؤید کر کے اس رسالہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت و تعظیم و تکریم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کسی قسم کی تنقید سے کوسوں دور رہنے کے سلسلے میں ایک راہ نما بنا دیا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ رسالہ اہل انصاف کے دلوں کی تنویر اور آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا، جو حضرات جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بری صحبت کی وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں اگر بہ نظر صاف اسے پڑھ لیں تو سوائے تسلیم کرنے کے کوئی راہ نہ ہوگی، اس موضوع پر کئی کتب پڑھنے کا اتفاق ہوا، اپنے اپنے انداز میں سب نے اس موضوع پر ”خوب صورت“ لکھا ہے، مگر علامہ موصوف نے ”خوب صورت ترین“ لکھا ہے؛ ہر حوالہ مکمل طور پر بیان کیا ہے، رجال پر گفتگو کے انداز سے واضح ہوتا ہے کہ آپ ایک ماہر اسماء الرجال ہیں، اللہ تعالیٰ اس رسالہ کو قبول خاص و عام عطا فرمائے، منکرین و معاندین کے لیے باعث ہدایت بنائے اور اہل محبت کے لیے مزید تقویت کا سبب بنائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و شان کا تصدق اللہ تعالیٰ مولف اور محرر السطور اور اس رسالہ کو محبت سے پڑھنے والوں کا خاتمہ ایمان و اسلام پر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین الکریم و صلی اللہ علیٰ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و سلم۔

مناظر اسلام، مجاہد اہل سنت

حضرت مولانا محمد کاشف اقبال مدنی رحمۃ اللہ علیہ

دارالافتا جامعہ غوثیہ رضویہ مظہر اسلام، سمندری، فیصل آباد

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا ہر صاحب ایمان قابل تعظیم ہے؛ اور جن نفوس قدسیہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا ہے ان کی عزت و عظمت کا کیا کہنا، ان کے ساتھ خود رب تعالیٰ نے وعدہ حسنیٰ کا قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے، پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہونے کا بھی رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔

قابل غور بات یہ ہے کہ جن سے رب راضی اور اس کا محبوب راضی ہو تو ان سے ناراض ہونے والا یقیناً خدا تعالیٰ سے ناراض ہو کر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان صحابہ کرام کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے اور ان کے نصف صاع جو کی خیرات کو عام مسلمان کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بھی فوق و برتر بتلایا ہے، تو کسی بھی صحابی کی توہین و تنقیص کرنا ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ بد قسمتی سے روافض کے طوفان بدتمیزی کی وجہ سے آج ان کے پیروکار کبھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کبھی سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے نظر آتے ہیں۔

حب رسول تو یہی ہے کہ توہین صحابہ کرنے والے کے شر پر لعنت بھیجو اس لیے اہل سنت کے حاملین ایسے گندے عقائد سے اور ان کے حاملین سے یقیناً بے زار ہیں۔ توہین صحابہ کے فتنہ میں مبتلا ہونے والے بد بخت عموماً جاہل ہی ہوتے ہیں جو بے کار، موضوع، من گھڑت روایات اور تاریخی کذب بیانیوں کے بل بوتے پر بالعموم

تمام صحابہ کرام بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرتے ہیں، حالاں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جلالت شان سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، معترضین میں حیا و شرم کا ادنیٰ بھی مادہ ہو تو اتنا تو سوچ لیں کہ جن کی سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام رفقاء نے بیعت کر لی ان پر طعن و تشنیع کہاں کی محبت اہل بیت ہے۔ یقیناً یہ اہل بیت سے محبت نہیں دشمنی ہے؛ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز نے اس لیے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گستاخ کو جہنمی کتوں میں سے ایک کتا کہا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد 29، ص 280)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جلالت شان اور ان پر معترضین کے اعتراضات کے جواب میں متعدد علمائے اہل سنت نے متعدد کتب تصنیف کی ہیں۔

بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے فاضل نوجوان عزیز القدر حضرت مولانا قاری محمد لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور گویا ”دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے“، ہر بات باحوالہ کی ہے، الحمد للہ کاتب الحروف نے کتاب کو ملاحظہ کیا تو دل سے مؤلف عزیز کے لیے دعائیں نکلیں، اللہ کرے زورِ قلم اور زیادہ۔

مولیٰ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مؤلف موصوف کی اس سعی محمود کو قبول فرمائے۔ آمین بحاہ سید المرسلین!



نوٹ: معزز قارئین! تقاریظ میں علمائے عظام کثر لہم اللہ تعالیٰ نے بہ وجہ حسن ظن مجھے جن القاب سے نوازا ہے، یہ واجب التعظیم علمائے ربانین تو یقیناً ان کے اہل ہیں؛ مگر: ”من آثم کہ من دانم“۔ خدا کرے ان مبارک ہستیوں کے یہ الفاظ میرے لیے مقبول دُعا بن جائیں!! (لقد عفی عنہ)

مآخذ ومراجع

حرف اللطف

- 1- الآحاد و المثاني: امام ابو بكر احمد بن عمرو بن ابى عاصم شيباني (متوفى 287هـ) - دار الرية، رياض، طبع اول، 1411هـ
- 2- آداب الاملاء و الاستملاء: حافظ ابو سعد عبد الكريم بن محمد تميمى مروزي (متوفى 562هـ) - دار الكتب العلمية، بيروت، طبع اول، 1401هـ
- 3- الاوسط فى السنن و الاجماع و الاختلاف: حافظ ابو بكر محمد بن ابراهيم بن منذر نيشاپورى (متوفى 319هـ) - دار طيبة، رياض
- 4- السنن الكبرى: حافظ ابو بكر احمد بن حسين بيهقى (متوفى 458هـ) - دار الكتب العلمية، بيروت، طبع ثانيا، 1424هـ
- 5- التاريخ الكبير: امام حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بخارى (متوفى 256هـ) - دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد دکن
- 6- الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الرابعة من الصحابة ممن اسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك): حافظ ابو عبد الله محمد بن سعد باشى (ابن سعد) (متوفى 230هـ) - مكتبة الصديق، سعودية، 1416هـ
- 7- المعجم الكبير: امام ابو القاسم سليمان بن احمد شامى طبرانى (متوفى 360هـ) - مكتبة ابن تيمية، قاهره، طبع ثانيا
- 8- البداية والنهاية: حافظ ابو القدا اسماعيل بن عمرو دمشقى (متوفى 774هـ) - دار احياء التراث العربى، بيروت، طبع اول، 1408هـ
- 9- المعرفة و التاريخ: حافظ ابو يوسف يعقوب بن سفيان فارسى (متوفى 277هـ) - مؤسسة الرسالة، بيروت، طبع ثانيا، 1401هـ
- 10- الفتاوى الحديثية: حافظ احمد بن محمد (ابن حجر مكي) (متوفى 974هـ) - دار احياء التراث العربى، بيروت، طبع اول، 1419هـ

- 11- الاباطيل و المناكير و الصحاح و المشاهير: حافظ ابو عبد الله حسين بن ابراهيم بن حسين (متوفى 543 هـ) - دار الكتب العلمية، بيروت، طبع اول، 1422 هـ
- 12- اتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من اطراف العشرة: حافظ احمد بن علي (ابن حجر) عسقلاني شافعي (متوفى 852 هـ) - مجمع الملك فهد..... مدينة، طبع اول، 1415 هـ
- 13- اطراف المسند المعتلى باطراف المسند الحنبلي: حافظ احمد بن علي (ابن حجر) عسقلاني شافعي (متوفى 852 هـ) - دار ابن كثير، دمشق
- 14- الطبقات الكبرى: حافظ ابو عبد الله محمد بن سعد هاشمي (متوفى 230 هـ) - دار الكتب العلمية، بيروت، طبع اول، 1410 هـ
- 15- التاريخ الكبير (السفر الثاني): حافظ ابو بكر احمد بن ابي خيثمة (متوفى 279 هـ) - الفاروق الحديثة، قاهره، طبع اول، 1427 هـ
- 16- الاحكام الشرعية الكبرى: حافظ عبد الحق بن عبد الرحمن اندلسي (متوفى 581 هـ) - مكتبة الرشد، رياض، طبع اول، 1422 هـ
- 17- السنة: امام ابو بكر احمد بن محمد الخلال بغدادى حنبلي (متوفى 311 هـ) - دار الرابية، رياض
- 18- الحجية في بيان المحجة و شرح عقيدة اهل السنة: امام ابو القاسم اسماعيل بن محمد طلمسجي (توام السنة) (متوفى 535 هـ) - دار الرابية، رياض، طبع ثاني، 1419 هـ
- 19- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: امام ابو زكريا يحيى بن شرف نووي (متوفى 676 هـ) - دار احياء التراث العربي، طبع ثاني، 1392 هـ
- 20- الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع و الزندقة: علامه احمد بن محمد (ابن حجر) مكلي (متوفى 979 هـ) - مكتبة الحقيقة، تركيا، 1429 هـ
- 21- المعجم الاوسط: امام ابو القاسم سليمان بن احمد طبراني (متوفى 360 هـ) - دار الحرمين، قاهره
- 22- الوافي بالوفيات: علامه صلاح الدين خليل بن ايبك صفدي (متوفى 764 هـ) - دار احياء التراث العربي، بيروت
- 23- ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء: الشاه قطب الدين احمد بن ابراهيم (شاه ولي الله) محدث دهلوي (متوفى 1176 هـ) - قديمي كتب خانه، كراچي

- 24- الناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية رضى الله عنه: علامه عبدالعزيز بن احمد
پرہاروی (متوفی 1239ھ) مکتبہ الحقیقہ، ترکی، 1411ھ
- 25- اسد الغابة في معرفة الصحابة: امام عز الدين ابوالحسن علي بن محمد جزري (متوفی
630ھ) - دارالمعرفة، بیروت، طبع ثالث، 1428ھ
- 26- الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي: محدث ابوالحسن علي بن عمر سکری حربی (متوفی
386ھ) - الوطن رياض، طبع اول، 1420ھ
- 27- المنتقى من كتاب الطبقات: حافظ ابو عروبہ حسین بن محمد حرانی سلمی (متوفی 318ھ) -
دار البشائر، طبع اول، 1994ھ
- 28- اسكات الكلاب العاوية بفضائل خال المؤمنين معاوية رضى الله عنه: ابو
معاذ محمود بن امام بن منصور، مکتبہ العلوم والحکم، مدینہ منورہ، 1426ھ
- 29- الجرح و التعديل: حافظ ابو محمد عبد الرحمن بن محمد (متوفی 327ھ) - دائرة المعارف
العثمانية، حیدرآباد دکن، طبع اول، 1271ھ
- 30- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: امام ابو عبد الله محمد بن احمد ذهبی
(متوفی 748ھ) - دار القبلة جده، طبع اول، 1413ھ
- 31- السنة: امام ابو بكر احمد بن عمرو (ابن ابی عاصم) (متوفی 287ھ) - المکتب الاسلامی،
بیروت، طبع اول، 1400ھ
- 32- اولیائے رجال الحدیث: شیخ الحدیث علامہ محمد عبد المصطفیٰ بن حافظ عبد الرحیم اعظمی حنفی - شبیر
برادرز، لاہور، 1422ھ
- 33- الثقات: امام حافظ ابو حاتم محمد بن حبان داری (متوفی 354ھ) - دائرة المعارف العثمانية،
ہند، طبع اول، 1393ھ
- 34- المبسوط: شمس الائمة امام ابو بكر محمد بن احمد سرخسی حنفی (متوفی 483ھ) - دارالمعرفة،
بیروت، 1414ھ
- 35- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: امام قاضي عياض بن موسى (متوفی 544ھ) دار
الفکر، بیروت، 1409ھ - دار الفیحاء، عمان، طبع ثانی، 1407ھ

- 36- الفوائد: حافظ ابوالقاسم تمام بن محمد (متوفى 414 هـ) - مكتبة الرشيد، رياض، طبع اول، 1412 هـ
- 37- المدخل: علامه ابو عبد الله محمد بن محمد (ابن الحاج) فاسى مالكى (متوفى 737 هـ) - دار التراث
- 38- الفردوس بمأثور الخطاب: محدث ابو شجاع شيرويه بن شهر دارديلمى همذانى (متوفى 509 هـ) - دار الكتب العلمية، بيروت، طبع اول، 1406 هـ
- 39- الكفاية فى علم الرواية: حافظ ابوبكر احمد بن على خطيب بغدادى (متوفى 463 هـ) - المكتبة العلمية، مدينة منوره
- 40- المخلصيات و اجزاء اخرى: ابوطاهر محمد بن عبدالرحمن مخلص ذهبي (متوفى 393 هـ) - وزارة الاوقاف.....، قطر، طبع اولى 1429 هـ
- 41- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: محدث ابوالعباس احمد بن محمد قسطلانى مصرى (متوفى 923 هـ) - المكتبة التوقفية، مصر
- 42- الام: امام ابو عبد الله محمد بن ادريس شافعى كنى (متوفى 204 هـ) - دار المعرفة، بيروت، 1410 هـ
- 43- المسند: امام ابو عبد الله محمد بن ادريس شافعى كنى (متوفى 204 هـ) - دار الكتب العلمية، بيروت، 1400 هـ
- 44- المصنف: حافظ ابوبكر عبدالرزاق بن همام صنعانى (متوفى 211 هـ) - المكتب الاسلامى، بيروت، طبع ثانى، 1403 هـ
- 45- اليواقيت و الجواهر فى بيان عقائد الاكابر: عارف بالله شيخ ابو المواهب عبد الوهاب بن احمد شعرانى حنفى (متوفى 973 هـ) - دار صادر، بيروت، طبع اولى، 1424 هـ
- 46- الثقات: حافظ ابوالحسن احمد بن عبد الله عجلونى كوفى (متوفى 261 هـ) - دار الباز، طبع اول، 1405 هـ
- 47- الكبانو: حافظ شمس الدين محمد بن احمد ذهبي (متوفى 748 هـ) - دار الكتب العلمية، بيروت، طبع خامس، 1427 هـ
- 48- الزواجر عن اقتراف الكبائر: امام ابوالعباس احمد بن محمد (ابن حجر) كنى (متوفى 974 هـ) - دار الكتب العلمية، بيروت، طبع ثانى، 1426 هـ
- 49- اصول السيرخسى: شمس الائمة فقيه ابوبكر محمد بن احمد نرخسى حنفى (متوفى 483 هـ) - دار المعرفة، بيروت

- 50- الاعتقاد: امام قاضي ابوالحسين محمد بن محمد حنبلي (ابن ابى يعلى) (متوفى 526 هـ) - دارا طلس
الخضراء، طبع اول، 1423 هـ
- 51- اتعاظ الحنفاء باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء: علامه تقى الدين ابوالعباس احمد
بن على حسيني مقریزی (متوفى 845 هـ) - المجلس الاعلى للشئون الاسلامية.....
- 52- الفقه الاكبر: امام الائمة، سراج الامة سيدنا ابو حنيفة نعمان بن ثابت تابعي (متوفى
150 هـ) - مكتبة الفرقان، امارت العربية، طبع اول، 1419 هـ
- 53- العقيدة الطحاوية: امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوي حنفي (متوفى 321 هـ) - المكتب
الاسلامي، بيروت، طبع ثاني، 1414 هـ
- 54- الزهد: امام حافظ احمد بن محمد بن حنبل شيباني (متوفى 241 هـ) - دار الكتب العلمية،
بيروت، طبع اولي، 1420 هـ
- 55- الشريعة: فقيه ابوبكر محمد بن حسين آجری شافعي (متوفى 360 هـ) - دار الوطن، الرياض، طبع
ثاني، 1420 هـ
- 56- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام اهل الرفض و الاعتزال: امام
شمس الدين ابوعبداللہ محمد بن احمد ذهبي (متوفى 748 هـ)
- 57- المنتخبات من المكتوبات للامام الرباني المجدد للاف الثاني احمد
الفاروقي السرهندي: (المعرب:) الشيخ محمد مراد بن عبداللہ القازاني ثم المكي (متوفى
1352 هـ) - مكتبة الحقيقة، تركي، 1432 هـ
- 58- الفخري في الاداب السلطانية و الذول الاسلامية: ابو جعفر محمد بن على بن محمد ابن
طباطبائي علوي (ابن ابي لطف) (متوفى 709 هـ) - دار القلم العربي، بيروت، طبع اول، 1418 هـ
- 59- امتاع الاسماع بما لنبي من الاحوال و الاموال و الحفدة و المتاع: علامه تقى
الدين ابوالعباس احمد بن على بن عبد القادر حسيني مقریزی (متوفى 845 هـ) - دار الكتب
العلمية، بيروت، طبع اول، 1420 هـ
- 60- سنن ابو داود: امام ابوداود سليمان بن اشعث جستناني (متوفى 275 هـ) - المكتبة الحصرية، بيروت
- 61- الاعتصام: حافظ ابراهيم بن موسى بن محمد مالكي شاطبي (متوفى 790 هـ) - دار ابن عصفان

السعودية، طبع أول، 1421ھ

62- البدء و التاريخ: مؤرخ مطهر بن طاهر مقدسي (متوفى 355ھ) - مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد

63- الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة: علامه ابوالحسن علي بن بسام شتريني اندلسي (متوفى

542ھ) - الدار العربية للكتاب، ليبيا، 1981ء

64- ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري: علامه احمد بن محمد قسطلاني شافعي (متوفى

923ھ) - المطبعة الكبرى الاميرية، مصر، سابعه، 1323ھ

65- الاساليب البديعة في فضل الصحابة و اقناع الشيعة: علامه يوسف بن اسماعيل

نهباني (متوفى 1350ھ) - مركز اهل السنة بركات رضا، هند، طبع أول، 1425ھ

66- النبراس شرح شرح العقائد: علامه ابو عبد الرحمن عبدالعزيز بن احمد ملتاني پرهاروي

(متوفى 1239ھ) - مكتبة حقانية، ملتان

حرف الباء

67- بهار شريعت: صدر الشريعه مولانا مفتي محمد امجد علي اعظمي حنفي (متوفى 1367ھ) - مكتبة

المدينه، كراچي، 1429ھ

68- بهجة المحافل و بغية الامائل في تلخيص المعجزات و السير و الشمانل:

علامه يحيى بن ابوبكر عامري يمنى (متوفى 893ھ) - دار صادر، بيروت

حرف التاء

69- تاريخ دمشق: حافظ ابوالقاسم علي بن حسن (ابن عساكر) (متوفى 571ھ) - دار الفكر، 1415ھ

70- تاريخ اسلام: امام شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد ذهبي (متوفى 748ھ) - دار الكتاب

العربي، بيروت، طبع ثاني، 1413ھ

71- تاريخ بغداد: حافظ ابوبكر احمد بن علي (خطيب بغدادى) (متوفى 463ھ) - دار الغرب

الاسلامى، بيروت، طبع اول، 1422ھ

72- تاج العروس من جواهر القاموس: علامه ابوالفيض محمد بن محمد (مرتضى زبيدي)

(متوفى 1205ھ) - دار الهدية

73- تحقيق الحق في كلمة الحق: پير سيد مہر علی گولڑوی (متوفى 1356ھ) - گولڑا

شريف، 1425ھ

- 74- تهذيب التهذيب في رجال الحديث: حافظ احمد بن علي (ابن حجر) عسقلاني (متوفى 852ھ) - دار الكتب العلمية، طبع اول، 1425ھ
- 75- تلخيص المتشابه في الرسم: حافظ ابو بكر احمد بن علي خطيب بغدادى (متوفى 463ھ) - طلاس للدراسات..... دمشق، طبع اول، 1985ء
- 76- تاريخ الخلفاء: امام جلال الدين عبدالرحمان بن ابو بكر سيوطى (متوفى 911ھ) - دار الارقم
- 77- تاريخ اصبهان: حافظ ابو نعيم احمد بن عبدالله اصبهانى (متوفى 430ھ) - دار الكتب العلمية، بيروت، طبع اول، 1410ھ
- 78- تالى تلخيص المتشابه: حافظ ابو بكر احمد بن علي (خطيب بغدادى) (متوفى 463ھ) - دار الصمعي، رياض، طبع اول، 1417ھ
- 79- تهذيب الاسماء و اللغات: امام يحيى بن شرف نووى (متوفى 676ھ) - دار الكتب العلمية، بيروت
- 80- تهذيب الكمال في اسماء الرجال: حافظ ابو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن مزى (متوفى 742ھ) - مؤسسة الرسالة، بيروت، طبع اول، 1400ھ
- 81- تاريخ المدينة: حافظ ابو زيد عمر بن شبة (متوفى 262ھ) - جده، 1399ھ
- 82- تفسير الامام الشافعى: امام ابو عبد الله محمد بن ادريس شافعى كنى (متوفى 204ھ) - دار التدمرية سعودية، طبع اول، 1427ھ
- 83- تفسير عبدالرزاق: امام ابو بكر عبدالرزاق صنعانى (متوفى 211ھ) - دار الكتب العلمية، بيروت، طبع اول، 1419ھ
- 84- ترتيب المدارك و تقريب المسالك: امام ابو الفضل قاضى عياض بن موسى مالكى كهنسى (متوفى 544ھ) - مطبعة فضالة... المحمدية، المغرب
- 85- تفسير نعيسى: حكيم الامت مفتى احمد يار خان بن محمد يار نعيسى (متوفى 1391ھ) - مكتبة اسلامية، لاهور
- 86- جامع ترمذى: امام حافظ ابو عيسى محمد بن عيسى ترمذى (متوفى 279ھ) - مصطفى البابى

صرف الجسيم

الحلبي، مصر، طبع ثاني، 1395ھ

87- جزء فيه احاديث من مسموعات: حافظ ابو زرعيدي بن احمد الهروي (متوفى 434ھ) -

دار الكتب العلمية، بيروت، طبع اول، 1423ھ

88- جامع الاصول: علامه ابو السعادات مبارك بن محمد (متوفى 606ھ) - دار الكتب العلمية،

بيروت، 1392ھ

89- جامع المسانيد و السنن الهادي لا قوم سنن: امام حافظ عماد الدين اسماعيل بن عمر

(ابن كثير) قرشي شافعي (متوفى 774ھ) - دار خضر، بيروت

حرف الماء

90- حديث الزهري: علامه ابو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمان زهري بغدادى (متوفى

381ھ) - اضواء السلف، رياض، طبع اول، 1418ھ

91- حديث عباس ترققى: امام ابو محمد عياد بن عبد الله باكستاني ترققى (متوفى 267ھ) (مخطوطه)

92- حلية الالياء و طبقات الاصفياء: حافظ ابو نعيم احمد بن عبد الله اصبهاني (متوفى

430ھ) - السعادة بجوار محافظة، مصر، 1394ھ

حرف النال

93- ذيل طبقات الحنابلة: امام حافظ زين الدين عبد الرحمن بن احمد بغدادى حنبلى (متوفى

795ھ) - مكتبة العميركان، رياض، طبع اول، 1425ھ

حرف الرء

94- رجال حول الرسول: خالد محمد خالد ثابت (متوفى 1416ھ) - مركز اهل السنة بركات

رضا، هند، طبع اول، 1427ھ

95- ربحانة الالباء و زهرة الحياة الدنيا: علامه قاضى شهاب الدين احمد بن محمد خفاجى (متوفى

1069ھ) - مطبعة عيسى البابى طبع اول، 1386ھ

96- روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و السبع المثانى: علامه شهاب الدين

محمود بن عبد الله حسيني (متوفى 1270ھ) - دار الكتب العلمية، بيروت، طبع اول، 1415ھ

97- روح البيان: علامه اسماعيل بن مصطفى حنفى (متوفى 1127ھ) - دار الفكر، بيروت

صرف السنين

98- سير اعلام النبلاء: امام ابو عبد الله محمد بن احمد ذهبى (متوفى 748 هـ) مؤسسة الرسالة، بيروت، طبع ثالث، 1405 هـ

99- سيرة حلبيه (انسان العيون فى سيرة الامين المأمون): علامه على بن ابراهيم حلبى (متوفى 1044) - دار الكتب العلميه، بيروت، طبع ثانى، 1427 هـ

100- سمط النجوم العوالى فى انباء الاوائل و التوالى: علامه عبد الملك بن حسين بكى (متوفى 1111 هـ) - دار الكتب العلميه، بيروت، طبع اول، 1419 هـ

101- سيرت صدر الشريعه: حافظ عطاء الرحمن قادري - مكتبة على حضرت، لاهور، 1432 هـ

102- سنن ابى داود: امام حافظ ابو داود سليمان بن اشعث ازدي (متوفى 275 هـ) - المكتبة العصريه، بيروت

صرف الشين

103- شان صحابه: علامه سيد محمود احمد بن سيد ابو البركات احمد رضوى حنفى (متوفى 1419 هـ) - رضوان كتب خانه، گنج بخش روڈ، لاهور

104- شرح الزرقانى على المواهب اللدنيه بالمنح المحمديه: علامه ابو عبد الله محمد بن عبد الباقي زرقانى مالكى (متوفى 1122 هـ) - دار الكتب العلميه، بيروت

105- شرح الصدور بشرح حال الموتى و القبور: امام جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن كمال سيوطى شافعى (متوفى 911 هـ) مؤسسة الكتب الثقافيه

106- شرح الشفاء: علامه ابو الحسن على بن سلطان (ملا على قارى) حنفى (متوفى 1014 هـ) - دار الكتب العلميه، بيروت، طبع اول، 1421 هـ

صرف الصاد

107- صحيح ابن خزيمة: امام حافظ ابو بكر محمد بن اسحاق (ابن خزيمة) شافعى (متوفى 311 هـ) - المكتبة الاسلامى، بيروت

صرف الطاء

108- طرح الثريب فى شرح التقريب: حافظ زين الدين عبدالرحيم بن حسين عراقى

(متوفی 806ھ) - دار الفکر العربی

- 109- طبقات المحدثین باصبهان و الواردین علیہا: شیخ ابو محمد عبداللہ بن محمد انصاری (ابی الشیخ اصبہانی) (متوفی 369ھ) - مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، طبع ثانی، 1412ھ
- 110- طبقات الحنابلۃ: امام ابوالحسن محمد بن محمد (ابن ابی یعلیٰ) حنبلی (متوفی 526ھ) - دار المعرفۃ، بیروت

صرف العین

- 111- عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری: امام بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد حنفی (متوفی 855ھ) - دار الکتب العلمیہ، بیروت، طبع اول، 1421ھ

صرف الفین

- 112- غنیۃ الملتمس ایضاح الملتبس: حافظ ابو بکر احمد بن علی (خطیب بغدادی) (متوفی 463ھ) - مکتبۃ الرشید، ریاض، طبع اول، 1422ھ

- 113- غذاء الالباب فی شرح منظومۃ الآداب: علامہ شمس الدین ابو العون محمد بن احمد سفارینی حنبلی (متوفی 1188ھ) - مؤسسۃ قرطبۃ، مصر، طبع ثانی، 1414ھ

- 114- غنیۃ الطالبین (الغنیۃ لطالبی طریق النحوق): حضور غوث پاک سید ابو محمد عبدالقادر بن موسیٰ حنبلی (متوفی 561ھ) - دار الجلیل، بیروت، طبع اول، 1420ھ

صرف الفاء

- 115- فتاویٰ نوریہ: فقیہ اعظم ابوالخیر محمد نور اللہ بن محمد صدیق حنفی (متوفی 1403ھ) - دار العلوم حنفیہ فریدیہ، بصیر پور، اوکاڑہ، اشاعت پنجم، 1424ھ

- 116- فتح الباری: امام حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی (متوفی 852ھ) - دار المعرفۃ، بیروت
- 117- فتاویٰ رضویہ (العطا یا النبویۃ فی الفتاویٰ الرضویۃ): اعلیٰ حضرت امام حافظ احمد رضا بن مفتی تقی علی خاں (متوفی 1340ھ) - رضا فاؤنڈیشن، لاہور

- 118- فضائل القرآن: امام حافظ ابوالعباس جعفر بن محمد مستغفری نسفی (متوفی 432ھ) - دار ابن حزم، طبع اول، 2008ء

- 119- فوائد ابن اخی میمی الدقاق: شیخ ابوالحسن محمد بن عبداللہ (متوفی 390ھ) - دار

اضواء السلف رياض، طبع اول، 1426ھ

120- فيضان سنت: حضرت مولانا ابو بلال محمد الياس بن حاجي عبدالرحمن عطار قادري، مكتبة
المدينه، كراچي، 1409ھ

121- فضائل النبي ﷺ، ترجمه جواهر البحار في فضائل النبي المختار: حضرت علامه محمد
عبدالحكيم اختر شاہ جہاں پوری وغیرہ، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور، 2008ء

حرف الكاف

122- كتاب الاربعين في مناقب امهات المؤمنين رحمة الله عليهن اجمعين:
فقيه عبدالرحمن بن محمد مشقي شافعي (متوفى 620ھ) - دار الفكر، بيروت، طبع اول، 1406ھ

123- كشف المشكل من حديث الصحيحين: امام حافظ جمال الدين ابو الفرج عبد
الرحمن بن علي (ابن جوزي) (متوفى 597ھ) - دار الوطن، رياض

124- كتاب الاربعين في ارشاد السائرين الى منازل المتقين او الاربعين
الطائية: علامه ابو الفتوح محمد بن محمد، هذا اني طائي (متوفى 555ھ) - دار البشائر الاسلاميه،
طبع اول، 1420ھ

حرف اللام

125- لمعة الاعتقاد: امام الائمہ ابو محمد موفق الدين عبداللہ بن احمد (ابن قدامہ) مقدسي حنبلي
(متوفى 620ھ) - وزارة الشؤون الاسلاميه..... طبع ثاني، 1420ھ

حرف البيم

126- معجم الصحابة: امام ابو القاسم عبداللہ بن محمد بغوي (متوفى 317ھ) - مكتبة دار البيان
كويت، طبع اول، 1421ھ

127- مسالك الابصار في ممالك الامصار: امام احمد بن يحيى بن فضل اللہ قرشي (متوفى
749ھ) - المجمع الثقافي ابو ظبي، طبع اول، 1423ھ

128- مختصر تاريخ دمشق: علامه ابو الفضل محمد بن مكرم انصاري (ابن منظور) (متوفى
711ھ) - دار الفكر دمشق، طبع اول، 1420ھ

129- مرقة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علامه علي بن سلطان القاري (متوفى

- 1014ھ) - دار الفکر، بیروت، طبع اول، 1422ھ
- 130- مشکاة المصابیح: علامہ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ (متوفی 741ھ) - المکتب الاسلامی، بیروت، طبع ثالث، 1985ھ
- 131- مرآة المناجیح شرح مشکاة المصابیح: حکیم الامت مفتی احمد یار بن محمد یار خاں نعیمی (متوفی 1391ھ) - نعیمی کتب خانہ، گجرات
- 132- مسند احمد: امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل (متوفی 241ھ) - مؤسسة الرسالة، طبع اول، 1421ھ
- 133- مسند الشامیین: امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی (متوفی 360ھ) - دار الحرمین، قاہرہ
- 134- معجم الصحابة: حافظ ابو الحسن عبد الباقي بن قانع بغدادی (متوفی 351ھ) - مکتبۃ الغرباء..... مدینہ، طبع اول، 1418ھ
- 135- معجم الشیوخ الكبير: امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی (متوفی 748ھ) - مکتبۃ الصديق طائف، طبع اول، 1408ھ
- 136- معرفة الصحابة: حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصہبانی (متوفی 430ھ) - دار الوطن، ریاض، طبع اول، 1419ھ
- 137- مکتوبات: امام ربانی، مجدد الف ثانی شیخ احمد بن عبد الاحد حنفی (متوفی 1034ھ) - مکتبۃ القدس کانس، روڈ، کونینہ
- 138- مجمع الزوائد و منبع الفوائد: حافظ ابو الحسن نور الدین علی بن ابو بکر بیہقی (متوفی 807ھ) - مکتبۃ القدسی، قاہرہ، 1414ھ
- 139- معاویة بن ابی سفیان شخصیتہ و عصرہ الدولة السفیانیة: دکتور علی محمد محمد الصلابی، دار ابن کثیر، بیروت، طبع اول، 1427ھ
- 140- معجم الصحابة: امام حافظ ابو القاسم عبد اللہ بن محمد بغوی (متوفی 317ھ) - مکتبۃ دار البیان، کویت، طبع اول، 1421ھ
- 141- مشاہیر علماء الامصار و اعلام فقہاء الاقطار: امام حافظ ابو حاتم محمد بن حبان بستی داری (متوفی 354ھ) - دار الوفا..... منصورہ، طبع اول، 1411ھ

142- مجموعۃ رسائل ابن عابدین: خاتمة المحققین علامہ سید محمد امین بن عمر (ابن عابدین)
شامی (متوفی 1252ھ) - عالم الکتب

143- المستدرک علی الصحیحین: حافظ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ (ابن البیج حاکم)
نیشاپوری (متوفی 405ھ) - دار الکتب العلمیہ، بیروت، طبع اول، 1411ھ

144- معرفة السنن و الآثار: امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی (متوفی 458ھ) - دار الوفا، قاہرہ
وغیرہ، طبع اول، 1412ھ

145- مثنوی مولوی معنوی: مولانا جلال الدین محمد بن محمد بہاء الدین رومی (متوفی 604ھ) -
نوریہ رضویہ پبلشنگ کمپنی، لاہور

146- مُجمل الرغائب فیما للامام احمد بن حنبل من المناقب: امام الصالح زکی الدین
عبداللہ بن محمد خزرجی حنبلی (متوفی بعد 681ھ) - دار ابن حزم، بیروت، طبع اول، 1427ھ

147- معجم السفر: حافظ صدر الدین ابو طاہر احمد بن محمد سلفی (متوفی 576ھ) - المکتبۃ
التجاریۃ، مکة المکرمۃ

148- میجر ایکٹ (کریمنل): مترجم: ملک جاوید انور اعوان ایم اے۔ ایل ایل بی ایڈووکیٹ
ہائی کورٹ، ملک پیلی کیشنز، ناظم آباد، کراچی، ایڈیشن، 2011ء

149- مجموعہ تعزیرات پاکستان 2006ء: مرتبہ انعام الحق میاں ایڈووکیٹ سپریم کورٹ آف
پاکستان، منصور بک ہاؤس، کچہری روڈ، لاہور

150- مصنف ابن ابی شیبہ: امام حافظ ابو بکر عبداللہ بن محمد (ابن ابی شیبہ) عیسی (متوفی
235ھ) - مکتبۃ الرشید، ریاض، طبع اول، 1409ھ

حرف النون

151- نہایۃ الارب فی فنون الادب: علامہ شہاب الدین احمد بن عبد الوہاب قرشی بکری
(متوفی 733ھ) - دار الکتب والوثائق القومیۃ، قاہرہ، طبع اول، 1423ھ

حرف الواو

152- وفيات الاعیان و انباء ابناء الزمان: علامہ ابو العباس احمد بن محمد (متوفی 681ھ) -
دار صادر، بیروت

دارالاسلام

اکابر اسلام کی علمی وراثت
کے احیاء کے لیے وقف ادارہ
جہاں
تحقیق کے قدیم و جدید اسالیب
کا خوب صورت امتزاج
نظر آئے گا

دارالاسلام
C-8 محی الدین بلڈنگ دائرہ ہارماکیت لاہور
Cell: 0321-9425765